


# تحفہ زاہدیہ



## مکتوبات

حضرت مولانا خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

و

حضرت مولانا خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

زَوَاہِدُ الْکَلِمِیَّاتِ الْکَلِیْمَاتِ







حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی  
 حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب مدظلہ العالی  
 ترجمہ  
 حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی  
 مدظلہ العالی

**زوار اکیڈمی پبلشنگس**



تحفہ زاہدیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# تحفہ زاہدیہ

ترجمہ

## مکتوبات شریف

حضرت مولانا خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

و

حضرت مولانا خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

حضرت صوفی محمد احمد نقشبندی مجددی زواری

رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

ذوالکعبہ کتب خانہ کبیرہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

تحفہ زاہدیہ	نام کتاب:
حضرت مولانا خواجہ عثمان دامادی	مکتوبات:
وخواجہ سراج الدین	
صوفی محمد احمد	اردو ترجمہ:
۱۹۶۸ء	طبع اول:
شوال ۱۴۲۰ھ / جنوری ۲۰۰۰ء	طبع دوم:
ایک ہزار	تعداد:
عبدالماجد پراچہ	کمپوزنگ:
۲۶۴	صفحات:
۱۶۰ روپے	قیمت:

تقسیم کنندہ

خواجہ حسن ناصر: ڈی۔ ۱۰۷۔ فرحان ٹاور۔ گلستان جوہر۔ کراچی

فون ۲۹۲۳۲۲۹-۳۰۱

ناشر

زَوَاکِیڈمی پبلی کیشنز

۱-۷-۱۷، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی

فون: ۰۲۱-۳۶۶۸۴۷۹۰

[www.rahnet.org](http://www.rahnet.org)

[info@rahnet.org](mailto:info@rahnet.org)



# فہرست

- ۶۸ ۸ مکتوب نمبر ۱۴۔ مولوی نور محمد صاحب  
 عرض ناشر  
 ۶۹ ۹ مکتوب نمبر ۱۵۔ مولوی حسین علی صاحب  
 عرض معروض مترجم  
 ۷۰ مکتوب نمبر ۱۶۔ محمود شیرازی صاحب  
 حصہ اول  
 ۷۱ مکتوب نمبر ۱۷۔ قاضی امیر بخش صاحب  
 مختصر حالات زندگی  
 ۷۲ مکتوب نمبر ۱۸۔ غلام محی الدین صاحب  
 ۳۱ خواجہ عثمان دہلانی رحمۃ اللہ علیہ  
 مکتوبات  
 ۷۳ مکتوب نمبر ۱۹۔ محمود شیرازی صاحب  
 ۱۴ مکتوب نمبر ۱۔ مولوی محمود شیرازی صاحب  
 ۷۵ مکتوب نمبر ۲۰۔ مولانا حسین علی صاحب  
 ۴۴ مکتوب نمبر ۲۔ محمد امتیاز علی صاحب  
 ۷۷ مکتوب نمبر ۲۱۔ میاں احمد خاں صاحب  
 ۴۷ مکتوب نمبر ۳۔ سید سردار علی شاہ صاحب  
 ۷۸ مکتوب نمبر ۲۲۔ خواجہ محمد سراج الدین صاحب  
 ۴۸ مکتوب نمبر ۴۔ مولوی محمود شیرازی صاحب  
 ۸۰ مکتوب نمبر ۲۳۔ مولوی محمود شیرازی صاحب  
 ۵۰ مکتوب نمبر ۵۔ محمد امتیاز علی خاں صاحب  
 ۸۱ مکتوب نمبر ۲۴۔ حافظ عمر دراز خاں صاحب  
 ۵۲ مکتوب نمبر ۶۔ حاجی حافظ محمد خاں صاحب  
 ۸۲ مکتوب نمبر ۲۵۔ مولوی حسین علی صاحب  
 ۴۵ مکتوب نمبر ۷۔ مولوی محمود شیرازی صاحب  
 ۵۶ مکتوب نمبر ۸۔ حق دلا خاں صاحب  
 علائق کے زمانے میں نصیحت آمیز  
 عبارات کا اضافہ  
 ۸۵ مکتوب نمبر ۲۶۔ حضرت لعل شاہ صاحب  
 ۶۰ مکتوب نمبر ۱۰۔ محمود شیرازی صاحب  
 ۸۶ مکتوب نمبر ۲۷۔ ملا محمد رسول صاحب  
 ۶۴ مکتوب نمبر ۱۱۔ مولوی حسین علی صاحب  
 ۸۷ مکتوب نمبر ۲۸۔ قاضی عبدالرسول صاحب  
 ۶۵ مکتوب نمبر ۱۲۔ بنام ملا ابراہیم صاحب  
 ۶۶ مکتوب نمبر ۱۳۔ مولوی محمود شیرازی صاحب

۱۰۲	مکتوب نمبر ۵۰۔ مولوی محمد عظیم صاحب	۸۸	مکتوب نمبر ۲۹۔ سید یوسف شاہ صاحب
۱۰۳	مکتوب نمبر ۵۱۔ مولوی محمود شیرازی صاحب	۸۹	مکتوب نمبر ۳۰۔ مولوی محمد نور الحق صاحب
۱۰۴	مکتوب نمبر ۵۲۔ محمد زکریا صاحب	۹۰	مکتوب نمبر ۳۱۔ حقداد خاں صاحب
۱۰۴	مکتوب نمبر ۵۳۔ مولوی نور الحق صاحب	۹۰	مکتوب نمبر ۳۲۔ حافظ محمد خاں صاحب
۱۰۵	مکتوب نمبر ۵۴۔ حاجی عبدالکریم صاحب	۹۱	مکتوب نمبر ۳۳۔ شاہ نواز خاں صاحب
۱۰۶	مکتوب نمبر ۵۵۔ مولوی نور خاں صاحب	۹۱	مکتوب نمبر ۳۴۔ منظور علی خان صاحب
۱۰۷	مکتوب نمبر ۵۶۔ حافظ محمد خاں صاحب	۹۲	مکتوب نمبر ۳۵۔ غلام محی الدین صاحب
۱۰۷	مکتوب نمبر ۵۷۔ شیر دل خاں صاحب	۹۳	مکتوب نمبر ۳۶۔ مولوی محمد عیسیٰ خاں صاحب
۱۰۸	مکتوب نمبر ۵۹۔ قاضی محمد امیر بخش صاحب	۹۳	مکتوب نمبر ۳۷۔ مولوی نور خاں صاحب
۱۰۸	مکتوب نمبر ۵۹۔ اللہ داد خاں صاحب	۹۴	مکتوب نمبر ۳۸۔ عبدالغفور خاں صاحب
۱۰۹	مکتوب نمبر ۶۰۔ بدر الدین صاحب	۹۴	مکتوب نمبر ۳۹۔ میاں غلام رسول صاحب
۱۰۹	مکتوب نمبر ۶۱۔ ملا بادشاہ شاہ صاحب	۹۵	مکتوب نمبر ۴۰۔ سردار علی شاہ صاحب
۱۱۰	مکتوب نمبر ۶۲۔ احمد و غلام محمد صاحبان صاحب	۹۵	مکتوب نمبر ۴۱۔ نوابانجان صاحب پنجابی
۱۱۰	مکتوب نمبر ۶۳۔ محمد مہربان خاں صاحب	۹۶	مکتوب نمبر ۴۲۔ غلام حیدر خاں صاحب
۱۱۱	مکتوب نمبر ۶۴۔ میاں اللہ بخش صاحب	۹۶	مکتوب نمبر ۴۳۔ میاں محمد فاضل صاحب
۱۱۲	مکتوب نمبر ۶۵۔ سید فضل حسین شاہ صاحب	۹۷	مکتوب نمبر ۴۴۔ میر اصاحب قلندر
۱۱۳	مکتوب نمبر ۶۶۔ نسیم گل صاحب	۹۹	مکتوب نمبر ۴۵۔ قاضی امیر بخش صاحب
۱۱۴	مکتوب نمبر ۶۷۔ محمد امین صاحب	۹۹	مکتوب نمبر ۴۶۔ سید پیر امیر شاہ صاحب
۱۱۵	مکتوب نمبر ۶۸۔ فیض علی شاہ صاحب	۱۰۰	مکتوب نمبر ۴۷۔ لعل شاہ صاحب
۱۱۶	مکتوب نمبر ۶۹۔ صاحبزادہ محمد گل صاحب	۱۰۰	مکتوب نمبر ۴۸۔ سید گل صاحب درویش
۱۱۷	مکتوب نمبر ۷۰۔ فقیر محمد صاحب	۱۰۱	مکتوب نمبر ۴۹۔ مہر محمد صاحب

- مکتوب نمبر ۷۱۔ قائم دین صاحب ۱۱۷ مکتوب نمبر ۹۲۔ نورالحق صاحب ۱۳۱
- مکتوب نمبر ۷۲۔ سید پیر امیر شاہ صاحب ۱۱۸ مکتوب نمبر ۹۳۔ سر فراز خاں صاحب ۱۳۲
- مکتوب نمبر ۷۳۔ ملا عبدالحق صاحب ۱۱۹ مکتوب نمبر ۹۴۔ مولوی ہاشم علی صاحب ۱۳۲
- مکتوب نمبر ۷۴۔ ملا خداداد صاحب ۱۱۹ مکتوب نمبر ۹۵۔ ہمشیرہ صاحبہ پیر جی میاں ۱۳۳
- مکتوب نمبر ۷۵۔ متولی خاں صاحب پنجابی ۱۲۰ مکتوب نمبر ۹۶۔ حافظ علی محمد صاحب ۱۳۳
- مکتوب نمبر ۷۶۔ مولوی عبید اللہ صاحب ۱۲۰ مکتوب نمبر ۹۷۔ سید پیر امیر شاہ صاحب ۱۳۴
- مکتوب نمبر ۷۷۔ نواب غلام قاسم خاں صاحب ۱۲۱ مکتوب نمبر ۹۸۔ روزی خاں صاحب ۱۳۵
- مکتوب نمبر ۷۸۔ ملا جان آخوند صاحب ۱۲۱ مکتوب نمبر ۹۹۔ ملایار خاں صاحب ۱۳۵
- مکتوب نمبر ۷۹۔ امتیاز علی خاں صاحب ۱۳۲ مکتوب نمبر ۱۰۰۔ غلام قادر خاں صاحب ۱۳۶
- مکتوب نمبر ۸۰۔ صاحبزادہ ولی اللہ خاں صاحب ۱۲۳ مکتوب نمبر ۱۰۱۔ شاہ نواز خاں صاحب ۱۳۶
- مکتوب نمبر ۸۱۔ محمد سرور خاں صاحب ۱۲۴ مکتوب نمبر ۱۰۲۔ مولوی سید ابو محمد برکت علی شاہ ۱۳۷
- مکتوب نمبر ۸۲۔ مولوی سعد اللہ صاحب ۱۲۴ مکتوب نمبر ۱۰۳۔ حاجی عبدالرشید علی خان ۱۳۷
- مکتوب نمبر ۸۳۔ محمد نصیر خاں صاحب ۱۲۵ مکتوب نمبر ۱۰۴۔ ملا نسیم گل آخوندزادہ صاحب ۱۳۸
- مکتوب نمبر ۸۴۔ محمد ہسی خاں صاحب ۱۲۵ مکتوب نمبر ۱۰۵۔ حضرت سراج الدین صاحب ۱۳۸
- مکتوب نمبر ۸۵۔ غلام حسین خاں صاحب ۱۲۶ مکتوب نمبر ۱۰۶۔ مولوی سعد اللہ صاحب ۱۳۹
- مکتوب نمبر ۸۶۔ حضرت سراج الدین صاحب ۱۲۷ مکتوب نمبر ۱۰۷۔ حاجی حافظ محمد خاں صاحب ۱۴۰
- مکتوب نمبر ۸۷۔ محمد شیرازی صاحب ۱۲۸ مکتوب نمبر ۱۰۸۔ سردار علی شاہ صاحب ۱۴۰
- مکتوب نمبر ۸۸۔ حاجی حافظ محمد خاں صاحب ۱۲۹ مکتوب نمبر ۱۰۹۔ ابراہیم خاں نمبر دار صاحب ۱۴۱
- مکتوب نمبر ۸۹۔ ملا بادشاہ سادیزی صاحب ۱۲۹ مکتوب نمبر ۱۱۰۔ مولوی احمد خاں صاحب ۱۴۱
- مکتوب نمبر ۹۰۔ بادشاہ محمد عمر خراسانی صاحب ۱۳۰ مکتوب نمبر ۱۱۱۔ سید عبدالعیاض صاحب ۱۴۲
- مکتوب نمبر ۹۱۔ صدیق آخوند صاحب ۱۳۱ مکتوب نمبر ۱۱۲۔ مولوی حسین علی صاحب ۱۴۳



۱۴۴	مکتوب نمبر ۶۔ مولوی نورالحق صاحب	۱۴۳	مکتوب نمبر ۱۱۳۔ ملا اولیا صاحب
۱۴۵	مکتوب نمبر ۷۔ سید محمد شاہ صاحب	۱۴۴	مکتوب نمبر ۱۱۴۔ قادر صاحب
۱۴۶	مکتوب نمبر ۸۔ ملک مبارز خاں صاحب	۱۴۴	مکتوب نمبر ۱۱۵۔ ملا عبد الجبید صاحب
۱۴۸	مکتوب نمبر ۹۔ مولوی عیسیٰ خاں صاحب	۱۴۵	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ ابو محمد برکت علی شاہ صاحب
۱۸۰	مکتوب نمبر ۱۰۔ مولوی نورالحق صاحب	۱۴۶	مکتوب نمبر ۱۱۷۔ حضرت سراج الدین صاحب
۱۸۱	مکتوب نمبر ۱۱۔ مولوی حسین علی صاحب	۱۴۷	مکتوب نمبر ۱۱۸۔ مولوی نور خاں صاحب
۱۸۲	مکتوب نمبر ۱۲۔ مولوی حسین علی صاحب	۱۴۷	مکتوب نمبر ۱۱۹۔ حافظ محمد خاں صاحب
۱۸۵	مکتوب نمبر ۱۳۔ مولوی حسین علی صاحب	۱۴۸	مکتوب نمبر ۱۲۰۔ مولوی محمود شیرازی صاحب
۱۸۶	مکتوب نمبر ۱۴۔ مولوی حسین صاحب	۱۴۹	مکتوب نمبر ۱۲۱۔ میر اصاحب قلندر صاحب
۱۸۸	مکتوب نمبر ۱۵۔ سید محمد شاہ صاحب	۱۵۰	مکتوب نمبر ۱۲۲۔ مولوی نور الدین صاحب
۱۹۰	مکتوب نمبر ۱۶۔ مولوی سلطان شاہ صاحب	۱۵۱	مکتوب نمبر ۱۲۳۔ اکبر نیازی صاحب
۱۹۱	مکتوب نمبر ۱۷۔ حاجی قلندر خاں صاحب	۱۵۲	مکتوب نمبر ۱۲۴۔ میاں شیخ محمد بخش صاحب
۱۹۳	مکتوب نمبر ۱۸۔ مولوی محمد عیسیٰ خاں صاحب		
۱۹۶	مکتوب نمبر ۱۹۔ مولانا حسین علی صاحب		
۱۹۸	مکتوب نمبر ۲۰۔ سید محمد شاہ صاحب		
۲۰۰	مکتوب نمبر ۲۱۔ محمد عیسیٰ خاں صاحب		
۲۰۲	مکتوب نمبر ۲۲۔ مولوی حسین علی صاحب	۱۶۹	مکتوب نمبر ۱۔ عیسیٰ خاں صاحب
۲۰۳	مکتوب نمبر ۲۳۔ سلطان شاہ صاحب	۱۷۰	مکتوب نمبر ۲۔ نور محمد خاں صاحب
۲۰۴	مکتوب نمبر ۲۴۔ امان اللہ خاں صاحب	۱۷۱	مکتوب نمبر ۳۔ مولوی عیسیٰ خاں صاحب
۲۰۵	مکتوب نمبر ۲۵۔ رب نواز خاں صاحب	۱۷۲	مکتوب نمبر ۴۔ مولوی عیسیٰ خاں صاحب
۲۰۶	مکتوب نمبر ۲۶۔ قاضی عبدالغفار صاحب	۱۷۳	مکتوب نمبر ۵۔ مولوی عبدالحق صاحب

## مکتوبات شریف

خواجہ حضرت مولانا حاجی محمد سراج الدین

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات



- مکتوب نمبر ۲۷- بنام حسین علی صاحب ۲۰۸ مکتوب نمبر ۲۶- مولوی حسین علی صاحب ۲۳۸
- مکتوب نمبر ۲۸- سید محمد شاہ صاحب ۲۱۰ مکتوب نمبر ۲۷- سید محمد شاہ صاحب ۲۳۹
- مکتوب نمبر ۲۹- محمد حیات صاحب ۲۱۲ مکتوب نمبر ۲۸- ابو محمد برکت علی شاہ صاحب ۲۴۲
- مکتوب نمبر ۳۰- ملا فیض محمد و ملا شیر محمد صاحب ۲۱۳ مکتوب نمبر ۲۹- مولوی سراج الدین صاحب ۲۳۸
- مکتوب نمبر ۳۱- قاضی کلیم اللہ صاحب ۲۱۴ بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ کے ختم شریف ۲۵۳
- مکتوب نمبر ۳۲- مولوی عطا محمد صاحب ۲۱۵ چند عملیات و تعویذات
- مکتوب نمبر ۳۳- مولوی عطا محمد صاحب ۲۱۶ بزرگوں کے معمول ہیں ۲۵۵
- مکتوب نمبر ۳۴- مولوی عبداللہ خان صاحب ۲۱۸
- مکتوب نمبر ۳۵- مولوی حسین علی صاحب ۲۲۱
- مکتوب نمبر ۳۶- قاضی صاحب ۲۲۲
- مکتوب نمبر ۳۷- مولوی عطا محمد صاحب ۲۲۳
- مکتوب نمبر ۳۸- احمد خاں صاحب ۲۲۵
- مکتوب نمبر ۳۹- مولوی عبدالرحمن صاحب ۲۳۰
- مکتوب نمبر ۴۰- فرزند ان سعادت مند محمد ابراہیم
- ۲۳۱ محمد علاء الدین صاحبان
- مکتوب نمبر ۴۱- محمد ابراہیم صاحب و
- ۲۳۲ محمد علاء الدین
- مکتوب نمبر ۴۲- // // // ۲۳۳
- مکتوب نمبر ۴۳- // // // ۲۳۵
- مکتوب نمبر ۴۴- // // // ۲۳۶
- مکتوب نمبر ۴۵- مولوی فقیر عبداللہ صاحب ۲۳۷

## عرضِ ناشر

الحمد للہ ادارے کو تحفہ ابراہیمہ (مکتوبات حضرت مولانا دوست محمد قدھاری رحمۃ اللہ علیہ) کی اشاعت کے بعد اب تحفہ زاہدہ کی اشاعت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔

یہ مجموعہ ۱۹۶۸ء میں پہلی بار شائع ہوا تھا، اور عرصے سے نایاب تھا، اب حاجی قربان بیگ صاحب کے تعاون سے اس کا دوسرا ایڈیشن پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مجموعے میں حضرت مولانا محمد عثمان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے وجائشین حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب شامل ہیں، اس بار اس مجموعے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور دونوں بزرگوں کے مکاتیب اور مختصر حالات الگ الگ حصوں میں دئے گئے ہیں۔ نیز پورے مجموعے کی کمپوزنگ کی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ صوری اعتبار سے بھی اسے خوشنما بنایا جائے، امید ہے کہ اس کا یہ نقش ثانی سابقہ ایڈیشن کی بہ نسبت زیادہ پسند کیا جائے گا۔

## عرض معروض مترجم

نحمدہ، ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین

والہ واصحابہ اجمعین

امابعد فاعوذ اللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

قد افلح من ذکھا وقد خاب من دسھا

اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو زائل سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو فحور میں دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنی فلاح و بہبود چاہتا ہے اور اس دنیا میں کامیاب اور بامر اور ہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو زائل سے پاک کرے۔ اگر نفس امارہ کے چکر میں آکر فسق و فحور میں مبتلا ہو گیا تو پھر خسارہ ہے۔ کامیابی کی بجائے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

اگر ہم اپنی پیدائش پر غور کریں تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بزرگم و کرم کیا ہے۔ وہ رب العالمین پاک ہے اور اپنے بندوں کو بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ بطن مادر میں بھی انسان کی پاکی کا خیال رکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں خوراک ناف کے ذریعہ سے پہنچاتا ہے منہ کے ذریعہ سے نہیں، پیدائش کے وقت بچہ بڑی احتیاط سے جھلیوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے اس کا منہ اور بدن پاک رہے۔ اللہ جل شانہ، تو چاہتا ہے کہ ہم پاک رہیں لیکن ہائے افسوس ہم نفس کے مکرو فریب میں آکر اپنے آپ کو گندگی اور ناپاکی سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ حتیٰ



کہ اس وحدہ لاشریک رحمن رحیم کی ذات واحد سے بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔

اگر دیکھا جائے تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کو فضیلت ملی ہے تو محض

مولائے حقیقی کے فضل و کرم سے۔ سوچئے تو سہی اپنی پیدائش سے پہلے وہ فقط ایک

جے ہوئے خون کا قطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا اور پھر ایک مدت

معینہ کے بعد انسانی ڈھانچہ۔ اب اس کے عالم وجود میں آنے کا انتظار کیا جاتا ہے اگر وہ

مراہو اپیدا ہوتا ہے تو نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی

ہے۔ اگر وہ پیدا ہونے کے بعد ایک سانس بھی لے لیتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کو

غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کی تجہیز و تکفین کی

جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح ڈال دی تھی۔ اس روح

کی وجہ سے تو اس کو فضیلت و حرمت نصیب ہوئی۔ اس روح کی بدولت اس کو چار چاند

لگے، ورنہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس روح ہی کی بدولت فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ

کریں۔ اس روح ہی کی بدولت انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا۔ اس روح کی بدولت

انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا گیا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس روح کی

بدولت ہمیں یہ سب کچھ فضیلتیں ملیں ہم اسی روح کی جلا سے غافل اور بے خبر ہیں۔

انسان اپنے مادی جسم کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا۔ اس مادی جسم کی پرورش کے

لئے طرح طرح کے کھانے زردہ، پلاؤ، تنجن، تورمہ اور انواع واقسام کے پھل استعمال

کرتا ہے۔ اس جسم کی زیبائش و آرائش کے لئے قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا ہے۔ اس کو

مطہر کرنے کے لئے عمدہ سے عمدہ خوشبوئیات استعمال کرتا ہے مگر اس نے کبھی اپنی روح

کی غذا کی طرف بھی کوئی توجہ کی؟ اس کی جلا کیلئے کبھی کچھ سوچا اس کی بیداری کے لئے

کبھی کوئی کوشش کی؟ نہیں ہماری نگاہ تو اس مادی رنگ و بو میں الجھ کر رہ گئی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح کی جلا کیسے کی جائے؟ روح کی جلا کا دار و مدار

تزکیہ نفس پر ہے۔ تزکیہ کے معنی ہیں اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا یعنی امراض

باطنہ سے پاک کرنا۔ یہ یاد رہے کہ جب تک امراض باطنہ سے شفا حاصل نہیں کرو گے



اسوقت تک دل کو تقویت اور روح کو جلا نصیب نہیں ہوگی۔

جس طرح صابن کپڑے کے میل کو دور کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر پابندی شریعت کے ساتھ دل کے میل کو دور کر دیتا ہے اور باطنی امراض کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ پہلی ہمیں چاہیے کہ شریعت کو اپنا امام بنا لیں اور اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک خدا کو راضی نہ کرو گے اسوقت تک تم کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کو جب کبھی عزت ملے گی احکام الہی کی پابندی سے ہی ملے گی۔ ہاں کافر کو اس کے بغیر بھی عزت مل سکتی ہے لیکن ان کے لئے آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم تیار ہے۔ پس دل کی صفائی اور رُوح کی جلا چاہتے ہو تو شریعت کو اپنا امام بنا کر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اپنے اندر خدا کی محبت، خوف اور فکر آخرت پیدا کرو۔ بے فکری کی وجہ سے قلب میں مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب دل فکر سے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان امراض اور خرابیوں کو بذریعہ مجاہدہ دور کرو۔ مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کا نام مجاہدہ ہے۔ نفس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ مثلاً نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں بنائی جائیں۔ کسی کی غیبت شکایت کی جائے۔ حسین صورتوں کو دیکھا جائے۔ حلال و حرام میں تمیز نہ کی جائے۔ نفس ہمیشہ معاصی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں کسل کرتا ہے۔ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ اشغال و مراقبات بھی اسی لئے کئے جاتے ہیں کہ نفس کے تقاضوں کا مقابلہ آسان ہو جائے، اور ہمت میں قوت اور برکت پیدا ہو جائے،

نفس کے خلاف مقابلہ اور جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اسکے لئے کسی اللہ والے کی صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ہنریا پیشہ کے لئے استاد کا ہونا لازمی ہے بغیر اُستاد کے مہارت حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح دینی امور کیلئے بھی اُستاد یا رہبر کی ضرورت ہے۔

یہ امر مسئلہ ہے کہ کسی منزل مقصود پر بغیر رہبر کے آسانی سے نہیں پہنچ

سکتے۔ راستہ اگر صاف اور ہموار نہیں ہے۔ راستہ میں بڑے بڑے گڑھے کھائیاں، ٹیلے، دریا اور جھیلیں پڑتی ہیں تو ایسی صورت میں رہبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر راستہ بھی ہموار ہو لیکن روشنی نہ ہو تو اس حالت میں بھی سفر کرنا مشکل ہو جائیگا۔ ہاں ایسا رہبر جو اس راستے کو پہلے سے طے کر چکا ہو اور منزل مقصود پر پہنچ چکا ہو، ساتھ ہو تو وہ ان تمام دشواریوں سے نکال کر منزل مقصود پر لاکھڑا کریگا۔ ہمارے سب سے بڑے اور کامل ترین رہبر جناب تاجدارِ مدینہ سردارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی اطاعت اور پیروی کرنے سے ہی ہم منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ تو اپنا کام مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب رہبری کا حق آپ کے ایسے نائبین کو ہے جو آپ ﷺ کی پوری پوری اتباع کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کی اتباع کا نام ہی آپ ﷺ سے وفا کرنا ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی توکل کائنات آپ کی ہے۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے مصمم ارادے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان کے لئے ہموار راستہ، روشنی اور رہبر بے کار و بے سود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ بٹھالے کہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے حالانکہ وہ بیمار ہے اور علاج کرانے کا کوئی ارادہ نہ رکھے تو بتائیے اس صورت میں اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے وہ بیمار کا بیمار ہی رہے گا۔

ہمیں باطنی علاج کے لئے روحانی طبیب کی ضرورت ہے۔ مگر روحانی طبیب

ملتے کہاں ہیں؟ پیروں اور رہبروں کے متعلق یہ شکایت عام ہے کہ آج کل کے رہبر

اور پیر تو خود راہ گم کئے ہوئے ہیں وہ رہبری کیلے کریں گے، ان کی شکایت واقعی نجاب ہے۔

حقیقت میں اس قسم کے رہبر رہبر نہیں ہیں بلکہ ڈاکو ہیں جو سادہ لوح انسانوں کی جیبوں

اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ طرح طرح کے مکرو فریب سے لوگوں کو اپنے جال میں



پھنساتے ہیں اور اوسیدھا کرتے ہیں۔ دیکھنے میں علم سے بے بہرہ۔ اگر علم ہے تو عمل نام کو نہیں۔ کہیں کشف و کرامات کی ڈینگیں مارنے میں طاق ہیں تو کہیں عالم بالا کی خبر لانے میں بڑے مشاق، کہیں غیب دانی کے دعویدار ہیں تو کہیں بخشوانے کے ٹھیکیدار۔ نامحرم عورتوں سے سر کی ماش کرانا۔ ان سے پاؤں دبوانا۔ ان سے دل بہلانا۔ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر ان کے ساتھ نگاہ بازیاں کرنا، یہ شریعت کی رو سے کب جائز ہے؟ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ پشیمان ہونے کی بجائے یہ بہانا بناتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کے سامنے اس لئے آتے ہیں تاکہ یہ عورتیں حشر کے روز ہمیں پہچان سکیں کہ یہ ہمارے مُرشد ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے جیسا کہ آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک نہ ایک دن بھولے بھالے مرید کی لڑکی یا بیوی کو لیکر رُفُو چکر ہو جاتے ہیں اور یہ بیچارہ منہ تکتا رہ جاتا ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سانپ نکل گیا لیکر کو پٹیتے رہو۔

دیکھنا یہ ہے کہ قصور کس کا ہے۔ قصور تو اپنا ہی ہے۔ جسے چاہا پیر بنا لیا۔ جہاں لمبے بال لمبا کرتے اور رنگے کپڑے دیکھے اور چکنی چڑی لچھے دار باتیں سنیں لٹو ہو گئے۔ بغیر تحقیق فیصلہ کر لیا کہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا پیر نہ کبھی ملا ہے نہ ملے گا۔ سونے کو کھرا اور کھوٹا معلوم کرنے کیلئے ایک دکان سے دوسری دکان جاتے ہیں، کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ دو چار لوگوں سے تحقیق کرتے ہیں تب جا کر کہیں سونا خریدتے ہیں۔ علاج معالجہ کے لئے بھی سند یافتہ تجربہ کار حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر باطنی امراض کے لئے کبھی کسی سند یافتہ تجربہ کار ماہر معالج کی تلاش نہیں کرتے۔ اگر کوئی مل گیا ہے تو اس کو شریعت کی کسوٹی پر نہ کبھی کسا اور نہ پرکھا محض اس کی چرب بیانی پر فریفتہ ہو کر اس پر بھروسہ کر لیا۔ کیا ایسا شخص قابل اعتماد ہو سکتا ہے جس کا نہ دل پاک ہے نہ نگاہ پاک۔ نہ تقویٰ ہے نہ پرہیز گاری۔ نہ خوف خدا نہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی پرستش کی بجائے اپنی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ خدا کو چھوڑ کر مُریدوں سے اُمیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز و ناجائز کا خیال نہیں، رام رام چننا پر نایا مال

اپنا۔ اس پر بھی صوفی ہونے کا دعویٰ سچ ہے، رہا صوفی گئی روشن ضمیری۔

عزیزو، دوستو اللہ والوں سے یہ دنیا خالی نہیں۔ تلاش کرو گے ضرور پاؤ گے۔ ہاں ذرا محنت درکار ہے۔ پہچان کیا ہے۔ صاحب شریعت ہو گا۔ کوئی قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھائے گا۔ صاحب کردار ہو گا۔ بلند اخلاق کا مالک، خدا پر توکل کرنے والا، نڈر بے باک، بے غرض بے لوث، رنگ و بو پر فریفتہ نہ ہونے والا، مجاہد، محنت و مشقت سے اپنی روزی کمانے والا۔ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والا بلکہ اپنی کمائی میں سے اوروں کو کھلانے والا۔ لقمہ حرام سے نالاں۔ رزق حلال پر نازاں۔ اپنی ذلت و رسوائی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ اس کی پیشانی سوائے اس وحدہ لا شریک کے کسی غیر کے سامنے نہ جھکے۔ بقول اقبال۔

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات

تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من!

ہمارے اسلاف کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان کے لئے زندگی خود ایک جنگ تھی۔ وہ ایک چٹان کی مانند ثابت قدمی کے ساتھ ہر اس مشکل کا مقابلہ کرتے جو انکے راستہ میں حائل ہوتی تھی۔ اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے انہوں نے جس طرف کا بھی رخ کیا فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ طاقتور سے طاقتور تو میں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ انہوں نے جابر سے جابر اور بڑی سے بڑی سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے۔ جہاں کہیں بھی دشمن نے مقابلے کی جرات کی اس کو منہ کی کھانا پڑی۔ وہ طاقتیں جن کو کبھی اپنے زوال کا وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا آنکھوں دیکھتے ملیا میٹ ہو گئیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ وہاں نشان باطل کی جگہ حق کا پرچم لہرانے لگا۔ آہ، کیا زمانہ تھا وہ جبکہ ہمارے نعرہ تکبیر سے دشمنوں کے دل کانپ اٹھے تھے۔ ان کے محلات اور قلعوں کے در و دیواروں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا گونج اٹھتی تھی۔ یورپ کے کلیسا پنگار پنگار کر دعوت دیتے تھے کہ اے حق پرستو، باطل سے نہ دبنے والو، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ کفر و شرک کا خاتمہ کرنے والو



یہ پہاڑ، یہ دریا یہ سمندر یہ دشت تمھاری زیارت کو ترس رہے ہیں۔ عزت و آبرو کے محافظو! آؤ۔ مظلوموں کی فریادرسی کرنے والو ان کی فریاد سنو۔ انکے دکھی دلوں کو تسلی دو۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ظلم و تشدد سے مظلوموں کو نجات دلائی۔ ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، جینا، مرنا سب کچھ اللہ کی خوشنودی کیلئے تھا۔ انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جان و مال کی کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے پہاڑوں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں اللہ کے دین کا ڈنکا بجادیا۔

دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحر ظلمات میں دوڑائیے گھوڑے ہم نے

یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے صوفی، یہ تھے ہمارے مجاہد جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگادی۔ یہ تھے وہ بہادر جنہوں نے شرعی احکام قائم کرنے کی خاطر اپنی جان و مال اور اولاد کو قربان کر دیا۔

آجکل کے پیر یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے طریقت اور تاکہ شریعت کی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور ہم جس طرح چاہیں اپنی من مانی کریں۔ یاد رکھئے جو جتنا صاحب شریعت ہو گا اتنا ہی صاحب قرب ہوگا۔ صاحب شریعت کی صحبت سے انسان اصلاح حاصل کر سکتا ہے ورنہ اسکے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ جاننا چاہیئے کہ سب سے بڑی دراصل کرامت شریعت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر استقامت کا حاصل ہونا ہے۔ عام طور پر یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ شریعت اور ہے۔ پھلکے کی مانند محض بیکار ہے۔ لیکن طریقت مغز کے مانند ہے جو حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اسی گمراہی میں ظاہری احکام (نماز روزہ وغیرہ) پر عمل نہیں کرتے۔ معلوم ہونا چاہیئے کہ تمام احکام کا مجموعہ جن کا انسان مکلف ہے خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال شریعت کہلاتا ہے اور متقدمین (شروع اسلام کے بزرگوں) کی اصطلاح میں فقہ کا لفظ ان ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے۔ ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام فقہ ہو گیا

اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام تصوف ہوا۔ اور باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر ادا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے دل کے اوپر موجودات کی بعض حقیقتیں خواہ آنکھ سے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی، خاص طور پر اچھے برے عملوں کی حقیقتیں اور اللہ پاک کی ذات و صفات و افعال وغیرہ کی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ خاص کر اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان معاملات کا اظہار ہوتا ہے، ان اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہونے کو معرفت کہتے ہیں۔ اور جس بزرگ پر یہ باتیں ظاہر ہوں اس کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔ پس یہ باتیں یعنی طریقت و حقیقت و معرفت شریعت سے ہی تعلق رکھتی ہیں نہ کہ کوئی الگ چیز ہیں۔

پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ہنریا پیشہ ہو اس کے لئے کامل اُستاد یا رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اُستاد یا رہبر کے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ ظاہری امراض ہوں یا باطنی۔ ظاہری امراض کا تو اسے احساس ہو جاتا ہے مگر باطنی امراض کا احساس بغیر رہبر کے ہونا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ باطنی امراض پیچیدہ اور باریک تر ہیں۔ بہر حال جب تک شیخ کامل کی مدد شامل حال نہ ہو باطنی امراض کا علاج ناممکن ہے۔ اس کی تائید میں بزرگوں کے چند واقعات درج کئے جاتے ہیں۔

حضرت قطب الاقطاب مرزا مظہر جانجاناں نقشبندی مجددیؒ بیان فرماتے ہیں کہ! ”ایک دفعہ میرا گزرا ایک شرابی کی دکان پر ہوا۔ مالک اس وقت شراب کی بوتلیں قرینے سے رکھ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو کر یہ نظارہ دیکھنے لگا۔ اسکے بعد اپنے شیخ نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا۔ ”جانجاناں آج تمہاری نظروں سے شراب کی بو آرہی ہے۔ میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ فرمایا احتیاط رکھا کرو۔“ ایک دفعہ ایک حسین صورت کو بار بار دیکھا۔ جب حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا آج تمہاری آنکھوں سے زنا کی بو آرہی ہے۔ میں بہت شرمندہ



ہوا تو جب سے نظروں کے گناہ سے پرہیز کرنے لگا۔ آنکھوں کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ معمر سے معمر آدمی بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ایک دفعہ مجھے ملیٹھی کوٹنے کے لئے حکم فرمایا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی دریافت فرمایا کیا ملیٹھی باریک ہو گئی ہے۔ عرض کیا جی حضور باریک ہو گئی ہے (کیونکہ ہاؤن دستہ میں سے کوٹنے کوٹنے اڑنے لگی تھی) آپ نے مسل کر دیکھا تو معلوم ہوا درد ری ہے باریک نہیں ہوئی۔ فرمایا ”تم نے کیسے کہہ دیا کہ باریک ہو گئی ہے۔ جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک منہ سے کچھ نہ نکالو۔ زبان سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس میں احتیاط لازمی ہے۔“

حضرت فضل علی قریشی مسکین پوری رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں کسی ایک موقع پر ایک صاحب نے آپ کی بیروی میں سے بیر توڑ کر کھائے۔ حضرت نے پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضور تبرک سمجھ کر کھائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی نظروں میں میری ہر ایک چیز تبرک ہے۔ یہ میرے کپڑے اور گھر کی ہر چیز لے اڑینگے۔ بھائی سوچو تو سہی چند بیروں کی قیمت ہی کیا ہے۔ آپ نے یہاں تک پہنچنے میں سفر کی تکالیف برداشت کیں اور کرائے وغیرہ میں کا فی رقم خرچ کی۔ اتنی رقم سے آپ ڈھیروں بیر بھی خرید سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں بیروں کی خاطر نہیں آئے اپنی اصلاح کے لئے تشریف لائے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں بلکہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں سے شریعت پر عمل سیکھ کر جائیں نہ کہ چوری۔ یہ میری بیروی لگائی گئی ہے آپ دوستوں کے لئے مگر شریعت کی رُو سے اجازت لینا ضروری ہے۔

ایک دفعہ ایک عالم حضرت قبلہ قریشی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو حضرت عبدالملک صاحب گڑھی نے حضرت سے عرض کی کہ حضور یہ عالم ہوتے ہوئے داڑھی کٹاتے ہیں۔ حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا یہ اعتراض ان کے سامنے کیوں نہیں کیا، اب غیبت کرتے ہو۔ جاؤ ابھی

راستے میں ہونگے۔ معافی مانگو۔ انہوں نے ان عالم صاحب سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا اور معافی مانگی۔ وہ بزرگ راستہ ہی میں سے واپس لوٹے اور حضرت کی خدمت میں آکر فرمانے لگے۔ قریشی صاحب میں ان کو معاف کرتا ہوں اور آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی داڑھی شریعت کے مطابق بڑھاؤنگا۔ انشاء اللہ آئندہ اس میں خیانت نہیں کرونگا۔

دوستو یہ ہے شیخ کامل کی صحبت کا اثر!

علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے کے بعد اس عاجز کو قبلہ شیخ کی صحبت سے مستفید ہونے کا زیادہ وقت ملنے لگا۔ آپ کی صحبت بابرکت سے اصلاح نفس ہونے لگی۔ مگر چونکہ انگریزی تعلیم کا بھوت دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا اس لئے چون و چرا کی عادت زیادہ تھی۔ ایک دن مجلس میں حضرت شیخ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچا لباس پہننا شریعت کے خلاف ہے۔ اس مسئلہ پر آپ نے کافی روشنی ڈالی۔ میرے دل میں خطرات پیدا ہو رہے تھے کہ ایک معمولی سی چیز کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے ایسا کفن پہنایا گیا ہے جو قد سے بہت لمبا ہے بزرگ آئے اور فرمایا کہ اس کے کفن کو اتنا کاٹ ڈالو کہ ٹخنے دکھائی دینے لگیں۔ چنانچہ کفن کاٹ دیا گیا اور ٹخنوں تک میرے پاؤں کھل گئے۔ اگلے روز خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ فرمایا کوئی خواب نظر آیا تو بیان کرو۔ خواب سن کر فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل جو میں نے ٹخنوں سے نیچا پہننے کے برائی میں تقریر کی تھی وہ آپ کے دل کو نہیں لگی۔ آپ کو اس میں شکوک ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو وہ منفعت اور حکمت سے خالی نہیں۔

داڑھی رکھنے سے یہ عاجز بہت گھبراتا تھا۔ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ حضور آپ جو چاہیں خادم پر پابندی عائد کر دیں لیکن داڑھی رکھنے کیلئے حکم نہ فرمائیں۔ آپ مسکرا کر فرماتے کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ تمہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی کرم نوازی سے چار سبق مل گئے



تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر مراقب تھا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا مزار مبارک شق ہو گیا ہے اور اس میں سے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے۔ ”اُو میں تمہیں بیعت کر لوں“۔ میں نے حضرت کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیدیا۔ آپ نے ہاتھ مضبوط پکڑ کر فرمایا کہ تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ سے داڑھی رکھو گے۔ یہ سن کر میری توپاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ جسم پر پسینہ آ گیا۔ آپ نے یہی الفاظ تین مرتبہ زبان مبارک سے ادا کئے۔ میں خاموش رہا۔ آخر میرا ہاتھ جھڑک کر واپس اپنے مزار شریف میں تشریف لے گئے۔ میں عالم استغراق سے عالم بیداری میں آیا اور اپنے کئے پر سوچنے لگا۔ لطائف میں ذکر کی وہ کیفیات نہ رہیں۔ اُداسی سی چھانے لگی۔ میں نے حضرت علیہ الرحمۃ کی خدمت میں خط لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے نسبت سلب ہو گئی ہے دعا فرمائیں۔ جان بوجھ کر داڑھی والا معاملہ گول کر لیا۔ حضرت نے خط میں تحریر فرمایا کہ وہ تمام واقعہ تحریر کر دو جو حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آپ کے ساتھ پیش آیا۔ لیجئے یہاں بھی پکڑا گیا۔ سارا معاملہ لکھنا پڑا جواب میں تحریر فرمایا کہ جس نعمت کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سلب کر لیں اس عاجز کی مجال نہیں کہ اس کو واپس دے سکے۔ وہیں جائیں اور معافی مانگیں۔ معافی مانگتا تھا روتا تھا مگر داڑھی رکھنے کا وعدہ نہ کرتا تھا۔ غرض اسی حالت میں دن گزرتے گئے۔

ایک دفعہ حضرت قبلہ پانی پت تشریف لائے۔ یہ عاجز بھی قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا۔ ایک روز حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر مراقبہ کیا۔ آپ کی زیارت مبارک سے مشرف ہوا۔ فرمانے لگے داڑھی نہیں رکھتے۔ سنت کو ترک کرتے ہو۔ اپنے شیخ کی اتباع نہیں کرتے۔ ان الفاظ میں اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ اس داڑھی کا بھی عجیب چکر ہے۔ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو فرماتے ہیں داڑھی رکھو، گھر میں آتا ہوں تو بیوی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے کہ داڑھی رکھو۔ نفس

و شیطان کا یہ تقاضہ ہے کہ میاں رکھ لینا ابھی تو جوان ہو عمر ہی کیا ہے۔ چنانچہ مزار اقدس سے اٹھ کر حضرت قبلہ کی خدمت اقدس حاضر ہوا۔ محبت بھری نظروں سے مسکرا کر بار بار میری طرف دیکھتے رہے۔ اور دل یہ اقرار کرتا گیا کہ اب یہ چہرہ انشاء اللہ کبھی بغیر داڑھی کے نہ ہوگا۔

بہر حال قبلہ شیخ کی توجہ کی برکت سے اس سنت مؤکدہ کا بھی پابند ہو گیا۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

دوستو! اسمیں کوئی شک نہیں کہ شیخ کامل کی صحبت سے انسان کی کایا کندن ہو جاتی ہے۔ صحبت ہی تو ہے جس کی بدولت رتبہ میں بڑے سے بڑا ولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے قدموں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔

شیخ کی صحبت سے مرید کو بدنی اور روحانی دونوں قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ فضل علی قریشی نقشبندی مجددی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین اور مریدین کی تعداد لاکھوں تھی۔ آپ کے خلفاء جگہ جگہ تبلیغ اسلام کے لئے پھیل گئے تھے اب بھی آپ کے طفیل میں تبلیغی سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آپ کو تمباکو نوشی سے بڑی نفرت تھی۔ آپ کی توجہ کاملہ کا یہ اثر تھا کہ بیعت ہونے والا شخص اگر تمباکو پینے یا کھانے کا عادی ہے تو وہ فوراً اس بڑی عادت سے توبہ کر لیتا تھا۔ اب بھی آپ کے سلسلہ عالیہ میں یہی اثر ہے۔ غور کا مقام ہے کہ اس عادت بد کو ترک کرنے سے لاکھوں مسلمانوں کو کتنا جانی اور مالی فائدہ پہنچا ہے۔ جو بھی آپ کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گیا ہر ایک اپنی اپنی عادت بد سے یعنی چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، شراب خوری، تمباکو نوشی کے علاوہ اور دوسرے بڑے افعال سے توبہ کر کے تائب ہو گئے۔ حیوانیت کو چھوڑ کر انسانیت کو اختیار کیا۔

میرے شیخ حاجی الحرمین والشریفین حافظ قاری سید زوار حسین صاحب مدظلہ العالی کے سب مریدوں کو ہر قسم کے نشے سے سخت نفرت ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی مُرید ایسا ہوگا جو تمباکو پیتا کھاتا ہوگا۔ آپ کا فیض زیادہ تر تعلیم یافتہ حضرات میں پھیلتا



جا رہا ہے پی ایچ ڈی اور ایم بی بی ایس حضرات نیز یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان آپ کے دست مبارک پر بیعت سے مشرف ہو کر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جن دوستوں کو تمباکو نوشی کی مسلسل عادت تھی انہوں نے آپ کی صحبت بابرکت کی بدولت تمباکو نوشی کی مکروہ عادت کو ترک کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سی بڑائیوں سے توبہ کر لی ہے۔ کیوں نہ کریں جبکہ شیخ مدظلہ العالی بھی عالم باعمل ہیں۔ شریعت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیشہ سادگی اور میانہ روی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ متقی پرہیزگار اور اللہ سے لو لگانے والے ہیں۔ خوش اخلاق و بلند کردار کے مالک ہیں۔ غرض آپ کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی پاکیزہ خصوصیات دائرہ بیان سے باہر ہیں۔ دعا ہے کہ ہمارے شیخ حضرت قبلہ شاہ صاحب (مدظلہ العالی) میری جان و دل ان پر قربان ہو (کے لازوال فیوضات کا آفتاب اور برکات کا ماہتاب اس عاجز اور جملہ احباب سلسلہ پر قیامت تک چمکتا رہے۔ آمین۔

اکثر حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ صوفی رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں اور دنیا کو ترک کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لوگوں کو ناکارہ اور کابل بنا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ آج کل ہم میں کام کرنے کی بجائے نکتہ چینی اور باتیں بنانے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے۔ نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ حقیقی صوفی تو ہر معاملے میں شریعت کو مقدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم یہاں اللہ کے قانون کو رائج کرو اور امن و امان قائم کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم یہاں جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ بھائیو ایسی صورت میں اس دنیا کو چھوڑنے کی کیسے تلقین کی جاسکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یا تو جان بوجھ کر صوفیوں پر ترک دنیا کا الزام لگایا جاتا ہے یا نا سمجھی کی بناء پر ایسا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع قلیل فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے

قد افلح من تزكى ○ و ذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون

۱۔ یہ سطور حضرت مولانا سید ذرار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تحریر کی گئی تھیں۔



الحیوة الدنیا O والاخرۃ خیر وابقی O (سورہ اعلیٰ)

”جو شخص (قرآن سن کر خباثت عقائد و اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا وہ شخص بامراد ہوا۔ مگر اے مکرو تم آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہا بہتر اور پائیدار ہے۔“

ملاحظہ فرمائیے تعلیم ربی کہ دنیاوی زندگی کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ آخرت دنیا سے بدرجہا بہتر ہے۔ یہی تعلیم صوفی حضرات دیتے ہیں۔ وہ دنیا چھوڑنے کی کب تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ تم دنیا کے ساتھ اتنا لگاؤ رکھو جتنا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی دولت ہاتھ آرہی ہے تو اس کی خوشی اور جارہی ہے تو اس کا غم آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اس دنیا میں حاکم کی حیثیت سے رہو محکوم کی حیثیت سے نہیں۔ اگر اس دنیا کے رنگ و بو پر فریقتہ ہو کر مغلوب ہو گئے تو یقین جانئے آپ کہیں کے بھی نہ رہے۔ حقیقت میں آپ کی دنیا بھی گئی اور آپ کا دین بھی گیا۔ بس ترک دنیا کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے نہ کہ رہبانیت سکھانا۔

صوفی حضرات تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جو حضرات بھی بزرگوں کے سلسلے سے منسلک ہو جاتے ہیں ان کا دین بھی اور دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کردار کی خرابی سے جو باپ اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرتے تھے وہ کسی اللہ والے کی غلامی میں آکر بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنے لگے۔ میاں بیوی کی ناچاقی سے جن کے گھر برباد ہو گئے تھے وہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے سے آباد ہو گئے۔ جو لوگ زبان کے پٹھارے اور نشے کی خاطر اپنے تمام گھر کے لئے وبال جان اور تنگدستی کا باعث بنے ہوئے تھے وہی اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر بیوی بچوں کے لئے آرام جان ہو گئے۔ دوستو اللہ والوں کے صدقے میں تو ہماری دنیا آباد ہوتی ہے۔ ان کے بغیر تو ہماری تباہی و بربادی ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسے حضرات کی صحبت جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی

جان و مال اولاد سب کچھ لٹانے کیلئے تیار ہوں کیا کسی کو ناکارہ اور کاہل بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے دیوانے شمع رسالت کے پروانے اپنی نظروں سے خاک کو کیسا تو بنا سکتے ہیں مگر کیسا کو خاک بنانا ان کا شیوہ نہیں۔ یہ تو اللہ کے شیر ہیں۔ ان کی صحبت سے شیر تو بن سکتے ہو گیڈر نہیں۔ ان کی صحبت مجاہد تو پیدا کر سکتی ہے مگر بزدل بھگوڑے نہیں۔ ان کی نظر فیض سے دل بیدار تو ہوتے ہیں مردہ نہیں۔ روح کو جلا تو ہوتی ہے مگر کدورت نہیں۔ دل کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد تو ہوتی ہیں مگر برباد نہیں۔ شرط یہ ہے کہ حقیقی صوفی ہو۔ چھٹ بھیوں، ایرے غیرے نتو خیروں میں سے نہ ہو۔ حضرات ان ہی روشن ضمیر، صاحب دل بلند اخلاق صوفیوں کی بدولت دنیا کا چپہ چپہ اور کونا کونا اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ جہاں دیکھنے کو ایک بھی مسلمان نہ تھا وہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کلمہ گو اور جاں نثار ان اسلام پیدا ہو گئے۔ متعصب سے متعصب مورخین یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ”اگر اسلام پھیلا ہے تو صوفیوں کی بدولت۔“ حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نوے ہزار ہندوں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ بادشاہ باوجود مادی طاقت کے وہ رنگ نہ چڑھا سکے سچ ہے۔

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

ناظرین کے لئے صوفیائے عظام کے چند اقوال ڈریں درج کئے جاتے ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ حضرات رہبانیت کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں یا اس کو ترک نہ کرنے کی۔

”ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا۔ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لینا۔ گناہوں سے پوری طرح بچنا۔ غیبت اور عیب جوئی نہ کرنا۔ کسی مسلمان کو خواہ آزاد ہو یا غلام حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا اور نہ اس کے ساتھ بغض و کینہ رکھنا۔ اپنے سے عاجز اور کمزور پر غصہ اور سختی نہ کرنا۔ یہ باتیں طریقت کی ضروریات میں سے ہیں اور ان کے بغیر طریقت کا کام مضبوط نہیں ہوتا۔“ (خواجہ باقی باللہ)

”مرد وہ ہے کہ لوگوں میں رہے۔ لین دین بھی کرے۔ اولاد بھی پیدا ہو۔ شریعت کی باتوں پر خود عمل کرے اور دوسروں سے عمل کرائے اور باوجود ان باتوں کے ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو۔“  
(خواجہ باقی باللہ)

”انسان کو شریعت پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا کل امور میں شریعت کو مقدم رکھے، کشف و کرامات لازمی نہیں۔ اعلیٰ درجہ کی سعادت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی پیروی پر قائم رہے۔ یہی شریعت ہے اور اس پر قائم رہنا ہی اصل مقصد ہے۔“

”لقمہ مثل بیج کے ہے۔ اگر حضور قلب کے ساتھ کھلایا جائے تو حضور قلب پیدا ہوگا ورنہ پریشانی اور غفلت پیدا ہوگی۔ شبہ کا لقمہ دھوئیں کی طرح ہے جو مقصود کو نظروں سے چھپا دیتا ہے۔“  
(خواجہ باقی باللہ)

”توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ رہیں۔ کیونکہ سبب ایک دروازہ ہے جو اللہ پاک نے روزی بھیجنے کے لئے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص دروازے کو اس خیال سے بند کر دے کہ روزی اوپر سے آئیگی تو وہ بے ادبی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے یہ دروازہ اسی لئے بنایا ہے کہ اسے کھولا جائے۔ یوں تو اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اس دروازے میں سے روزی دے یا اس کے اوپر سے۔“

(خواجہ باقی باللہ)

”جن چیزوں کا شریعت میں حکم ہے ان کو بجالانا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا ذکر ہی میں داخل ہے۔ چنانچہ شریعت کے مطابق خرید و فروخت کرنا بھی ذکر ہے۔ بلکہ باطن کی



ترقیات شریعت کے بجالانے پر (جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں) منحصر ہیں۔ پس ظاہر و باطن دونوں کیلئے شریعت مقدم ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو شریعت کو بجالاتا ہے وہی صاحب معرفت ہے اور جسقدر اس کی پابندی زیادہ ہوگی اسی قدر معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ یاد رکھو شریعت کے تین جزو ہیں۔ ۱۔ علم، ۲۔ عمل، ۳۔ اخلاص، (حضرت مجدد علیہ الرحمۃ)

”فقیر وہ ہے جس سے شریعت کے خلاف کوئی کام سرزد نہ ہو باحیا بھی ہو حتیٰ کہ اپنی عبادت کو بھی پوشیدہ رکھے اور سوائے خدا کے کسی کی محبت اس کے دل پر غالب نہ ہو۔“ (پیر بابا)

”فقراء کبھی اللہ پاک کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اس کی غضب کی ہوئی چیزوں پر توجہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو تراور میٹھے لقموں کے بدلے نہیں بیچتے۔ باریک اور آراستہ کپڑوں کی خاطر غلامی اختیار نہیں کرتے۔ احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو چھوڑ کر بچوں کی طرح وجد و حال کے اخروٹوں پر خوش نہیں ہوتے۔“

(حضرت مجدد علیہ الرحمۃ)

”میں یہ نہیں کہتا کہ تم تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ جملہ اسباب سے الگ ہو جاؤ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کاموں میں غفلت اور ارتکاب حرام سے بچتے رہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بیویوں کو چھوڑ دو۔ اچھے کپڑے نہ پہنو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خبردار بیوی بچوں میں ایسے مشغول نہ ہونا کہ خدا کو بھول جاؤ۔ کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک صاف رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔“

(شیخ احمد کبیر رفاعی)

”میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ اور اپنے لئے پہاڑوں میں عبادت کی جگہ بنا لو۔ بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اپنے نفس کی لذت کے لئے ان کی خدمت نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے ان کی خبر گیری کرو۔“ (شیخ احمد کبیر رفاعی)

صوفیائے عظام کے زریں اقوال سے یوں تو کمٹائیں بھری پڑ ہیں مگر طوالت کی وجہ سے یہاں مختصر اُدرج کئے گئے ہیں۔ اب اس کتاب سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر و بیشتر بزرگوں کی تصانیف ربیٰ اور فارسی زبانوں میں ہیں چونکہ ہمارے ملک میں ان زبانوں کا مذاق روز کم ہوتا جا رہا ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ حسب توفیق ان کی کتابوں کے اُردو تراجم شائع کئے جائیں۔

اس سے پیشتر خواجہ خواگان حضرت مخدوم منا دوست محمد قدھاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات اور ان کے مکتوبات گرامی کا اُردو ترجمہ پیش خدمت ہو چکا ہے اب خواجہ حضرت عثمان دامانی قدس سرہ، اور ان کے نامور فرزند قطب الاقطاب حضرت خواجہ سراج الدین صاحب قدس سرہ کے مکتوبات شریف کا اُردو ترجمہ شائقین کی خدمت میں حاضر ہے جو ”تحفہ زاہدیہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت خواجہ خواجان مخدوم منا زاہد صاحب حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے فرزند ارجمند ہیں۔ آج کل آپ خانقاہ موسیٰ زئی شریف میں مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہیں اور اپنے فیوض و برکات سے اللہ کی مخلوق کو سیراب کر رہے ہیں۔

میں اپنی کم مائیگی اور نااہلی پر نظر رکھتے ہوئے اتنا عرض کرونگا کہ اس بات کا خاص اہتمام برتا گیا ہے کہ اصل فارسی نسخوں سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ عبارت صاف اور سادہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت خواجہ محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اُردو ترجمہ کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ جو کچھ بھی کام ہوا ہے وہ اپنے پیران کبار کی دعاؤں کی برکت سے ہوا ہے۔ بہر حال جہاں کہیں کوئی خامی نظر آئے اس کو میری کم

علمی پر محمول فرما کر اصلاح فرمائیں اور اعتراض کا نشانہ نہ بنا کر اس عاجز کیلئے دعائے حصول سعادت دارین فرماتے رہیں۔

مجھے یقین کامل ہے کہ ان مکتوبات شریف کے مطالعہ سے انشاء اللہ تازگی ایمان، صفائی قلب اور اصلاح نفس نصیب ہوگی اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ برادر ان طریقت اور شائقین تصوف کیلئے یہ مکتوبات شریف ایک بے بہا نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ایسی کتابوں کے مطالعے کا شوق پیدا کرے۔ نیز اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کے فیوضات و برکات سے فیضیاب ہونے اور تاجدارِ مدینہ سردارِ عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر دائمی سلامتی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

آخر میں ان مخلص حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے طباعت کے سلسلہ میں ہر ممکن تعاون برتا۔ اللہ بزرگ و برتر ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ خاص طور سے قمر الزماں صاحب بیچنگ ڈائریکٹر اوٹو موبائل انجینئر لمیٹڈ کیلئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مخیر اور مخلص کارکن کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے اور ان کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آمین

دارم	دعاطح	خواند	ہر کہ
گنہگارم	بندہ	من	زانکہ

خادم الفقراء

محمد احمد، ایم، اے

نقشبندی، مجددی، زواری



”توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ رہیں۔  
 کیونکہ سب ایک دروازہ ہے جو اللہ پاک نے روزی بھیجنے  
 کے لئے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص دروازے کو اس خیال سے  
 بند کر دے کہ روزی اوپر سے آئیگی تو وہ بے ادبی ہے۔  
 کیونکہ اللہ پاک نے یہ دروازہ اسی لئے بنایا ہے کہ اسے  
 کھولا جائے۔ یوں تو اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اس دروازے  
 میں سے روزی دے یا اس کے اوپر سے۔“

(خواجہ باقی باللہؒ)

# حصہ اول

✽ مختصر حالاتِ زندگی

حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

✽ مکتوبات

حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

وہ شخص جو شریعت کو بجالاتا ہے وہی صاحب معرفت ہے اور  
جس قدر اس کی پابندی زیادہ ہوگی اسی قدر معرفت بھی زیادہ  
ہوگی۔ یاد رکھو شریعت کے تین جزو ہیں۔ ۱۔ علم، ۲۔ عمل،  
۳۔ اخلاص۔

(حضرت مجدد علیہ الرحمۃ)



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خواجہ خواجگان قطب الاقطاب خواجہ محمد عثمان دامانی کے

### مختصر حالاتِ زندگی

#### ولادت باسعادت

حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہفتہ کی شب کو نماز مغرب کے بعد ۱۲۴۴ھ میں کلاچی ڈیرہ اسماعیل خاں کے قصبہ لونی میں ہوئی۔ جب سن تمیز کو پہنچے تو آپ کے والد ماجد نے جو نہایت صالح بزرگ تھے آپ کو تحصیل علوم دینیہ کے واسطے گھر سے رخصت کیا۔ علوم دینیہ کی تحصیل کے بعد اہل اللہ کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہوئی۔ جستجو اور تلاش کے بعد آپ حضرت قبلہ و کعبہ اسرار العارفین غوث السالکین قطب الواصلین زبدۃ الفقہاء و جہذۃ الفضلاء والعلماء حاجی دوست محمد صاحب قدھاری قدس سرہ العزیز کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی کل عمر شریف ستر سال دو ماہ تیرہ روز ہے۔

#### خدمتِ شیخ

بیعت کے بعد سے تمام عمر شیخ کی خدمت میں رہے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے ایک والہانہ محبت تھی۔ ہر وقت اپنے شیخ کی (خدمت کا خیال دامن گیر رہتا تھا۔ یہاں تک کہ بارہا خانقاہ موسیٰ زئی شریف سے خانقاہ شریف کے کاموں کے واسطے بوقت صبح شہر ڈیرہ اسماعیل خاں تشریف لاتے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی مرضی کے مطابق تمام کام سرانجام دے کر واپس خانقاہ شریف پہنچ جاتے۔ موسیٰ زئی شریف

اور ڈیرہ اسماعیل خاں کا فاصلہ تقریباً بیس کوس یعنی تیس میل ہے۔ غلبہ جذب اور شدت ذوق و شوق کی وجہ سے کسی بھی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تھا۔ اکثر خراسان و ہندستان کے سفر میں اپنے پیرومرشد کی خدمت میں رہ کر فیوضیات حاصل کرتے رہے۔ اگرچہ حاجی صاحب قبلہ کے خلفاء اور بھی تھے مگر اپنے پیرومرشد کے ساتھ آپ کو بے حد قلبی محبت اور باطنی لگاؤ تھا۔ علاج معالجے میں آپ پیش پیش رہتے تھے۔ غرض حتی المقدور اپنے شیخ کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔

## علم ظاہری و باطنی

بیعت ہونے سے پہلے ظاہری علم کی تکمیل کر چکے تھے لیکن بیعت ہونے کے بعد علم حدیث۔ علم اخلاق۔ علم سیر و علم تصوف کی سند اپنے پیرومرشد سے حاصل کی۔ نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، کبرویہ، مداریہ و شطاریہ وغیرہ کے مکمل سلوک اپنے شیخ سے طے کر کے اجازت مطلقہ سے مشرف ہوئے۔

## خانقاہوں کا نظام

جب حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے جناب حاجی عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنا خلیفہ مطلق و نائب مقرر کیا۔ خانقاہ شریف موسیٰ زئی۔ خانقاہ شریف دہلی و خانقاہ شریف خراسان وغیرہ کے کل اختیارات قبلہ حاجی صاحب کے سپرد کئے۔

## حج بیت اللہ شریف

اپنے شیخ کی وفات کے بعد آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے۔ تین سال بعد چند احباب کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لئے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا اسقدر غلبہ ہوا کہ درود یوار سے محبوب کی صورت کا مشاہدہ ہونے لگا، کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تاکہ معدہ خالی رہے اور اس طرح دیار حبیب کی

چہ چہ زمین کا ادب و احترام قائم رہ سکے۔ اسی حالت میں تقریباً اس پاک و مقدس سرزمین پر گیارہ روز تک قیام فرما کر خانقاہ موسیٰ زئی شریف واپس تشریف لے آئے۔

## تبلیغ

اس مبارک سفر کے بعد تبلیغ کی کوشش میں کربستہ ہو گئے۔ تبلیغ کی خاطر جگہ جگہ کا سفر کیا۔ خراسان و دامان اور مختلف شہروں اور مقامات کے لوگوں کو دست بیعت سے مشرف فرمایا۔ آپ سنت سنیہ اور ظاہری شریعت کی متابعت پر بہت زور دیتے تھے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کے جتنے بھی خدام تھے وہ سب کے سب اپنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے لینے حتیٰ کہ تمام امور میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ آپ پانچوں وقت کی نماز اول وقت میں باجماعت پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ خانقاہ شریف کے رہنے والوں کو باقاعدہ تہجد کی نماز ادا کرنے کی تلقین فرماتے اور نصیحت کرتے کہ دوستو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے غفلت نہ برتو۔ بلکہ تمہارا ایک سہانس بھی غفلت میں گزرنے نہ پائے۔ یہ بات بارہا زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے۔

ذکر	کن	ذکر	تا	ترا	جان	است
پاک	دل	ز	ذکر	رحمٰن	است	است

یعنی جب تک کہ جان میں جان ہے برابر اللہ کا ذکر کرتا رہے کیونکہ اللہ ہی کے ذکر سے دل پاک و صاف ہوتا ہے۔

## خانقاہ عالیہ کا خرچ توکل پر

خانقاہ عالیہ کے خرچ و اخراجات کے لئے اللہ جل شانہ کی غیبی مدد شامل حال تھی۔ گو آمدنی کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا لیکن پھر بھی خانقاہ شریف میں چالیس پچاس آدمی مستقل رہائش رکھتے اور اتنے ہی آدمی آتے جاتے رہتے تھے۔ سالانہ جلسے کے ایام یا مخصوص اوقات میں مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل



و کرم سے کبھی خرچ میں کمی کی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ ان حالات کے پیش نظر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ یا تو کمیساگر ہیں یا آپ کے پاس دست غیب کا کوئی عمل ہے۔ مگر یہ سب کچھ محض فضل رب تھا۔

کبھی کسی امیر سے نذر یا نذرانہ قبول نہیں کیا۔ لنگر کا تمام خرچ اللہ توکل پر چلتا تھا۔ ایک دفعہ کڑی افغانان قوم توخی لنگ کے لوگوں نے متفقہ طور پر مل کر عرض کی کہ حضور لنگر کے خرچ کے لئے ایک کاریز اور زمین جو کہ ہم لوگوں کی ملکیت ہے حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت تقریباً دس ہزار روپیہ ہے جس سے سالانہ آمدنی تقریباً دو ہزار روپے ہو جائیگی، آپکی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا

دوست مارا زرد ہد منت نہد  
رازق ما رزق بے منت دھد

ایک دن غلام نبی صاحب قوم بابڑ موسیٰ زئی سکنہ چودھواں نے حضور کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی جس میں تحریر تھا کہ حضور بندہ لنگر کیلئے دوویل زمین آپ سیاہ ۱۶/۱۵ حصہ خراس اور ایک میوہ کا باغ خدمت اقدس میں بہ تسلیم درضا پیش کرنا چاہتا ہے اس کی قیمت تقریباً بارہ ہزار روپے ہے۔ نیز یہ خواہش ہے کہ خادم کی حیثیت سے خانقاہ شریف میں قیام کروں اور خدمت عالیہ میں رہ کر عمر کے باقی حصہ کو اللہ کی یاد میں گزاروں۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فقیر کے لنگر کا خرچ وغیرہ اللہ کے توکل پر ہے۔ ہمارے پیران کبار کا سب کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلتا رہا ہے۔ زمینوں کا قبول کرنا اور دولت کا جمع کرنا ہمارا شیوہ نہیں۔ فقیر کو معذور خیال کریں۔ ہاں خانقاہ شریف آپ کا گھر ہے آپ بخوشی تشریف لائیں اور قیام فرمائیں، انشاء اللہ فقیر کی توجہ اور دعا شامل حال رہے گی اس کے بعد بھی غلام نبی صاحب نے مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ حضور نذرانہ کو قبول فرمائیں، مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔

## عجز و انکساری

حالانکہ آپ کے ہزاروں مرید تھے، لیکن کبھی پیری یا شیخی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنے آپ کو شیخ حضرت خواجہ خواجگان حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف کا خادم بتانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی فتویٰ وغیرہ نہ دیتے تھے فرماتے تھے میں درویش ہوں فتویٰ دینا مفتیوں کا کام ہے۔ حالانکہ آپ عالم باعمل تھے اور آپ کا کتب خانہ اتنا بڑا تھا کہ اس قدر کتابیں جتنی اس میں تھیں پنجاب و ہندستان کے کسی کتب خانے میں موجود نہ تھیں۔ جو لوگ آپ سے دعا کے طالب ہوتے تھے آپ بھی ان سے اپنے لئے اور اپنے صاحبزادے کے لئے دعائیں طلب فرماتے۔

مولوی نورالحق شاہ پوری نے ایک قصیدہ مداحیہ آپ کی شان میں لکھ کر خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا۔

”آپ کا نوازش نامہ پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی۔ خوشی آپ کے اشتیاق پر ہوئی اور رنج اس لئے کہ آپ نے میری تعریف کرنے میں وقت ضائع کیا۔ اور مدح بھی کی تو ایسے شخص کی جو اس کا مستحق نہیں ہے۔“

غرض آپ ہر معاملے میں کسر نفسی پیش نظر رکھتے اور ہمیشہ عجز و انکساری سے کام لیتے تھے۔

## مختلف امراض

آپ کو مختلف قسم کے امراض لاحق رہتے تھے۔ آپ عام طور پر ریشہ، فالج ضیق النفس اور دوران سر میں مبتلا رہتے تھے۔ خصوصاً سردی کے موسم میں کثرت سے بیمار رہتے تھے لیکن کبھی بھی حرف شکایت زبان مبارک پر نہیں آیا۔ بلکہ خندہ پیشانی سے تمام تکالیف برداشت کرتے تھے اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجالاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ سب بیماریاں اللہ تعالیٰ کی ملازم ہیں جو فقیر کو خدمت کیلئے عطا کی گئی ہیں۔



## وصال سے چند سال پیشتر کی حالت

وصال سے پانچ سال پہلے احباب، درویشوں اور عزیز واقارب سے تعلق قطع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرماتے تھے اب تو یہ دل چاہتا ہے کہ گوشہ تنہائی اختیار کر لوں۔ میرا اب آخری وقت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے باطنی فیض کے لئے پاس آتے ہیں۔ لہذا تنہائی اختیار کرنا میرے لئے مناسب نہیں۔ کبھی کبھی فرماتے بس میری حالت تو ایسی ہے کہ قبر کے کنارہ پر بیٹھا ہوں اور پاؤں لحد میں لٹکائے ہوئے ہوں۔

وصال سے ایک سال پیشتر قرب و جوار سے آنے جانے والوں کو مختلف قسم کی نصیحتیں فرماتے۔ ”اے دوستو اس ملاقات کو آخری ملاقات خیال کریں۔ پھر شاید ملنا ہو یا نہ ہو۔ یہ عارضی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس کو غفلت میں نہ گزارو۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہو اور مولا کی یاد میں ہمہ تن مصروف رہو۔ بس ظاہر و باطن کا فائدہ اسی میں ہے۔ بندہ کا کام بندگی کرنا ہے۔ خبردار غفلت میں کوئی لمحہ بھی گزرنے نہ پائے ورنہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا اور یاس و ناامیدی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔“

بعض دوستوں کو لکھتے تھے کہ دنیا بھروسے کی جگہ نہیں۔ یہ سرائے فانی ہے اپنا اصلی وطن آخرت ہے۔ بس فقیر کے حق میں خاتمہ بالخیر کیلئے دعا کرتے رہیں عاجز بھی آپ سب کے لئے دعا گو ہے۔ عمر کے آخری سال میں امراض نے شدت اختیار کر لی تھی۔ جس کی وجہ سے آپ نہایت نحیف و کمزور ہو گئے تھے۔ گرمی و سردی برداشت کرنے کی طاقت و تاب نہ رہی تھی۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ مسجد شریف سے تسبیح خانہ تک کا فاصلہ طے کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میں نے کوئی لمبا سفر اختیار کیا ہے۔ صبح کی نماز کیلئے مجلسی مبارک سے مسجد تشریف لاتے۔ کل فاصلہ تقریباً بیس قدم ہے لیکن مسجد پہنچنے میں کمزوری کی وجہ سے تین جگہ بیٹھنا پڑتا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز لمبی قرات کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا فرماتے اور اس کے بعد حلقہ شریف حسب معمول کراتے۔ یہ خداداد طاقت تھی۔



رجب کی انیس تاریخ تھی کہ آپ سخت بیمار ہو گئے۔ چوبیس روز تک متواتر بیمار رہے آپ کو شدید قسم کا بخار تھا اور اسہال کی زیادتی تھی۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح کئے گئے اور غریب غربا و مساکین میں تقسیم کئے گئے تاکہ مرض میں افاقہ ہو۔ یونانی علاج کارگر نہ ہوا۔ حتیٰ کہ مجرب دوائیں بھی استعمال کرائی گئیں جو بجائے فائدے کے مضر ثابت ہوئیں۔

### مہمان نوازی

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سخت مرض کے باوجود نماز باجماعت کھڑے ہو کر ادا فرماتے رہے۔ آخر میں اسہال کثرت سے جاری ہو گئے جس کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بالکل نہیں رہی۔ حتیٰ کہ ناطقتی کی وجہ سے زبان مبارک میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی مہمانوں کا خیال تھا۔ سینکڑوں لوگ عیادت کیلئے تشریف لاتے تھے۔ ہر ایک سے آپ مصافحہ کرتے اور فرماتے اور انکی احوال پر سی فرماتے۔ جو جانا چاہتا اس کو جانے کی رخصت فرماتے اور قیام کرنا چاہتا اس کو قیام کیلئے اجازت فرماتے۔ ایک دن اس شدید مرض کی حالت میں بھی بعد نماز عشاء دریافت فرمایا۔ ”میرے مہمانوں کی خاطر خواہ خدمت کی گئی ہے یا نہیں؟ فلاں مکان میں کون کون حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اور فلاں حجرہ میں کون کون؟ ان کو کپڑے اور لحاف مہیا کر دیئے گئے یا نہیں؟ خدام نے عرض کی کہ حضور آپ کچھ فکر نہ کریں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بخوبی انتظام کر دیا گیا ہے۔ غور تو کرو کتنے اچھے مہمان نواز تھے کہ اس شدید مرض میں اپنی جان کی پروا نہ کی بلکہ مہمانوں کا خیال دامنگیر رہا۔

شدت امراض کے غلبہ اور کمزوری کے عالم میں بھی نصیحتیں کرتے رہے ملا صاحب نیازی کو جو بہت عمر رسیدہ تھے نصیحت فرمائی۔ ”ملا صاحب میری حالت پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو آخرت کے غم کو دل سے نہ بھلانا، اور اس لمبے سفر کے لئے کچھ نہ کچھ توشہ ضرور جمع کرنا۔“ ملا محمد رسول صاحب سے فرمایا۔ ”کسی چیز کا غم نہ کرنا مگر دین کا، احکام دین کی تعمیل میں کوئی کمی نہ آنے پائے اور کوئی بھی سانس

غفلت میں نہ گزرے۔“ جب یہ نصیحت آمیز الفاظ زبان مبارک سے قبلہ محمد رسول صاحب نے سنے تو ان پر جذبہ طاری ہو گیا۔ شیخ شہزاد صاحب کو فرمایا۔ ”دیکھئے میری حالت کا پہلے سے مقابلہ کیجئے۔ کہاں گئی میری وہ تیز رفتاری۔ کیا ہوا میری خوش بیانی اور خوش کلامی کو، آہ کدھر ہے میری طاقت جسمانی اور میری فہم معانی، کہاں ہے میری قوت و حواس جوانی، خبردار خبردار! میری حالت زار سے عبرت حاصل کرو۔“

اس کے بعد فرمایا کہ دوستو! ان تمام حضرات کے لئے جو اس سلسلہ سے منسلک ہیں۔ جو یہاں سے بعد عیادت تشریف لے گئے ہیں اور جو اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے ہیں دعائے خیر کرو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دربار کے فیوضیات و برکات سے سرفراز فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی دینی مرادیں بر لائے اور ان کو دینی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بس فقیر کا آخری وقت ہے اور آخری ملاقات ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ بس باقی ہوس۔“

جناب مولانا مولوی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور یہ الفاظ جو آپ نے فرمائے ہیں از روئے الہام فرمائے ہیں یا مرض کی بناء پر؟ حضرت قبلہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اسکے بعد فرمایا کہ مجھ میں اب قوت گویائی نہیں۔

وفات سے ایک دن پیشتر حضرات خواجہ خواجگان سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد سعید صاحب آخوندزادہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دینے کی اجازت فرمائی۔

## وصال مبارک

۲۲ شعبان المعظم ۱۳۱۴ھ منگل کے روز بوقت اشراق حضرت قبلہ عالم و عالمیان قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس و ضریحہ المقدس نے اس دار فانی سے جہان جاودانی کا سفر اختیار کیا اور اپنے جاں نثاروں کو بے کسی و بے بسی کے عالم میں چھوڑ گئے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون ○

وفات کے وقت تمام وجود مبارک سے ذکر جاری تھا۔ آخری سانس کے



ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان مبارک سے نکلا۔ آپ کے وصال پر ملال پر احباب پر جو رنج و الم کا عالم طاری تھا وہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ کسی پر جذب کی حالت طاری تھی تو کسی پر سکتہ کا عالم۔ کوئی گریہ و ازری کر رہا تھا تو کوئی دل تھامے ہوئے دم بخود تھا کوئی اللہ ہو کے نعرے لگا رہا تھا تو کوئی حق حق کے۔ کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ میرے خواجہ! میرے رہبر! میرے ہادی! میرے شیخ! میرے آقا! آہ اب وہ صحبت کہاں! کسی گوشہ سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ ”صبر کرو صبر کل نفس ذائقۃ الموت

درد لم بود کہ ہر گز نہ شوم از تو جدا  
چہ کنم چارہ ندارم کہ خدا کرد جدا

تجہین و تکفین

وصیت کے مطابق حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ و جناب مولوی محمود شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ و جناب محمد سعید آخوندزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر ایک ہی رات میں دور دراز علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں مخلوق خدا جنازہ میں شرکت جوش محبت میں اطراف و جوانب کے شہروں سے اڑی چلی آرہی تھی۔ جس وقت آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا تو جوم کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ چارپائی تک نہ پہنچ سکتا تھا میرا صاحب قلندر نے جو بہت طویل القامت اور کچھ شخم جوان تھے حضور کے جنازہ مقدسہ تک بڑی مشکل سے دو انگلیاں پہنچائیں۔

غرض جنازہ مبارک کو خانقاہ شریف کے صحن میں لایا گیا اور صفوں کا انتظام کیا گیا۔ اس قدر جم غفیر تھا کہ تمام خانقاہ شریف میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی یہاں تک کہ خانقاہ شریف کے دروازے سے باہر بھی کئی صفیں کھڑی تھیں۔ حضرت قبلہ و کعبہ جناب مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز ظہر کے بعد حضرت قبلہ و کعبہ بجائے بیسیاں و ماوی بے مایگان، انیس غریباں و تکیہ گاہ مسکیناں



یعنی خواجہ محمد عثمان صاحب قطب دوراں نور اللہ مضجعہ الشریف و مرقدہ المنیف کی تدفین کا کام کیا گیا۔

”منہا خلقنا کم وفيہا نعید کم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری“



## حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

کے خلفائے عالی مقام کے اسمائے گرامی

- ۱۔ جناب حضرت لعل شاہ صاحب سید ہمدانی بلاولی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۔ میاں فاضل صاحب قوم ادان رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۔ مولوی مہر محمد صاحب انگوی ادان رحمۃ اللہ علیہ
- ۴۔ مولوی نور خاں صاحب چکڑالوی قوم ادان رحمۃ اللہ علیہ
- ۵۔ مولوی ہاشم علی صاحب بگھاروی رحمۃ اللہ علیہ
- ۶۔ ملا بیگ محمد صاحب سر بریدہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۷۔ ملا محمد رسول صاحب لٹون افغان خراسانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۸۔ جناب مولوی محمود شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ۹۔ قاضی عبدالرسول صاحب انگوی قوم کھچی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۰۔ میر اصاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۱۔ مولوی حسین علی صاحب قوم میانہ ساکن وان پچھراں رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۲۔ سید امیر شاہ صاحب ہمدانی بلاولی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۳۔ حاجی حافظ سید میر احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۴۔ سید اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نوٹ

ان خلفائے عظام کے حالات فوائد عثمانی میں درج ہیں۔

یہاں طوالت کی وجہ سے نہیں دیئے گئے۔

# مکتوبات شریف

خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

مکتوب ۱

بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

خدا کے راستے میں جانبازی کی ضرورت اور  
اختلافی مسائل میں بحث و مباحثہ کی ممانعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے جناب معارف آگاہ فیض مآب  
مولوی محمود شیرازی صاحب کو معلوم ہو کہ ایک دن میں آپ کے دو مکتوبات گرامی  
موصول ہو کر کاشف احوال ہوئے

مکرمی! انسان کے قلب کی مثال آسمان کی طرح ہے۔ جو کبھی صاف ہوتا ہے  
اور کبھی ابر آلود۔ شیطان لعین انسان کا طاقتور دشمن ہے۔ یہ اس نگہات میں لگا رہتا ہے  
کہ اپنے مکرو فریب کے ذریعے بیچارے انسان کو غلط راستے پر لے جائے۔ لہذا معلوم  
ہو کہ خدا کے راستے میں جانبازی کی ضرورت ہے۔ اس لئے چاہیے کہ سوائے اللہ کے



کسی غیر کی طرف توجہ نہ کریں۔ بس اپنے قلب کی سلامتی میں کوشاں رہیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے صراطِ مستقیم پر چلتے رہیں اور اس سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے دوستوں کے وسیلے کے سوا کوئی اور چیز بجا و ماویٰ نظر نہیں آتی۔ فقیر کی طرف سے کسی قسم کا تردد اور تشویش نہ رکھیں۔ فقیر آپ سے خوش ہے۔ دعا ہے خدا واحد قدوس بھی آپ سے خوش رہے۔ یہ عاجز ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے کہ خدا وہ مبارک گھڑی نصیب فرمائے جبکہ آپ کو استقامت حاصل ہو تاکہ سکون قلب کے ساتھ آپ حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم السامی کے طریقے کی اشاعت بخوبی کر سکیں۔ اور اپنے حضرات کے فیض سے لوگوں کو پوری طرح مستفیض فرمائیں۔ فقیر کی طرف سے ہر قسم کا اطمینان رکھیں اور خود صحیح نیت کے ساتھ شب و روز اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، احقر بہ دل و جان آپ کے ساتھ ہے۔ اس آخری وقت میں جو کہ امتحان و آزمائش کا وقت ہے ہر طرح جو اں مردی سے کام لیں۔ فقط

ہاں آپ نے جو آڑی والے مریدوں کی استدعاء توجہ کئے بارے میں دریافت فرمایا ہے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ کام آپ کے سپرد ہے۔ اس حقیر کو کیا معلوم کہ وہ دل سے استدعاء و التماس کر رہے ہیں یا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع و محل کے مطابق جس طرح مرضی ہو کریں۔ اگرچہ یہ جواب شخص معین کے سوال کے متعلق ہے۔ لیکن بحسب معنی فقیر نے عام کہا ہے۔ مولویوں کے اختلاف اور قیل و قال کو پیش نظر رکھ کر اختلافی مسائل پر بحث و مباحثے سے پرہیز کریں اور تنہائی اختیار کریں۔ فقیر نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہاں وقت ضرورت اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جو کچھ آپ نے اپنی باطنی کیفیت کے متعلق تحریر فرمایا تھا تو جناب اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہمارے لئے تو عبادت کرنا فرض ہے۔ اس کے نتائج اور ثمرے کی توقع نہ کریں۔ ہمارے حضرات گرامی نے باطنی کیفیت کے نتائج اور ثمرات کو اس طریقے کے بچوں کے بہلانے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس سے زیادہ اہمیت دینا اپنے



پیران کرام سے انکار کرنا ہے۔ اگر کبھی عالم شہادت یا عالم مثال یا وجدان و فراست کے طور پر کچھ حالات منکشف ہو جائیں اور سالک ان پر فخر کرنے لگے تو یہ اس کی نادانی ہے کیونکہ حضرت مجدد و منور الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ صوفی جب تک اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بدتر نہ جانے اس وقت تک کافر سے بدتر ہے۔ پس خلاصہ تو یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ فقیر بمع جمع خاندان و جملہ اہل دروں و بیروں تا حال خیریت سے ہے۔ البتہ بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ رات کو محمد سیف الدین کہنے لگا کہ چچا جان کہاں گئے اور ان کے کاغذ کدھر ہیں۔ عزیزم سراج الدین و محمد بہاء الدین کے متعلق کیا لکھا جائے کہ سالہا سال ایک ہی حجرے میں آپ لوگوں کی نشست و برخاست رہی ہے۔ خداوند کریم آپ کے تمام کام آپ کے حسب منشا سرانجام فرمائے۔ آمین۔

بالنون والصادوالہ الامجاد صلی اللہ علیہ وسلم

فقیر نے عین اضطراب کی حالت میں اپنے گرم کمرے میں جگہ بنا لی ہے اپنے مطلب کو مد نظر رکھو اور دوسرا کام نہ کرو۔

فقط والسلام



### ہمت نہ ہارنا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو قوی مومن، ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو (یوں) مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، لیکن (یہ بات) کہو کہ ”اللہ نے اندازہ کیا، جو چاہا اُس نے کر ڈالا۔ اس لئے کہ ”لو“ یعنی ”اگر“ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“

## مکتوب ۲

بنام جناب مولوی محمد امتیاز علی خان صاحب

## حقیقت وجود عدم اور عورتوں کی

### اجازت کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

اما بعد۔ محبت و اخلاص نشان محمد امتیاز علی خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد تسلیمات و تکریمات کے فقیر حقیر لاشی کی طرف سے معلوم ہو کہ منعم حقیقی جل شانہ کے فضل و کرم سے فقیر یہاں پر ہر طرح خیریت سے ہے۔ نیز آپ کی خیریت سلامتی، عافیت اور شریعت مطہرہ پر دائمی استقامت کے لئے درگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں۔

عرض یہ ہے کہ آپ کا نامہ گرامی اس ناکارہ درویش کو موصول ہو کر باعث مسرت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمع عوارضات و تکالیف سے نجات فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور پیران کبار علیہم الرضوان کے صدقے میں اپنی ذات مقدس کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

آپ نے حقیقت وجود عدم اور عورتوں کی اجازت کے متعلق دریافت فرمایا

ہے۔ وجود عدم کے متعلق یہ عرض ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک واجب الوجود، اور دوسرا ممکن الوجود۔ واجب الوجود اللہ جل شانہ کی صفت ہے۔ ممکن الوجود کا اطلاق ماسوی اللہ پر ہوتا ہے۔ جب واجب الوجود تھا اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اس مرتبے کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔

پس مقابلہ کہاں ہوا۔ مقابلہ تو ان دو چیزوں میں ہوتا ہے جو صفت میں برابر ہوں، یہاں پر تو مساوات نام کو بھی نہیں۔ حضرت امام الطریقہ امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مذہب کے مطابق ممکن کی حقیقت عدم ہے۔ پس ممکنات کے حقائق عدمیات ہوئے نہ کہ غیر۔ قرآن مجید میں سپارہ والحصن سورہ نساء میں ہے۔

”ما اصابك من حسنۃ فمن الله وما اصابك من سيئة فمن

نفسك“

اے انسان تجھ کو جو کوئی خوش حالی پیش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جو کوئی بد حالی پیش آتی ہے وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔

صاحب من ہمارے حضرات مجددیہ کے مذہب میں اعدام اضافیہ و ظلال صفات حقیقیہ کے حقائق ہیں یعنی ان اعدام نے اسماء اور صفات کے تقابل کی بناء پر علم الہی میں ثبوت پیدا کیا ہے اور انوار و صفات کے مبصر ہوئے ہیں اور عالم کے تعینات کے لئے میادی بنے اور خارج ظلی جو کہ خارج حقیقی کے ظل کے ساتھ موجود ہوئے ہیں۔ دنیا اسی عدم وجود کی ترکیب سے آثار خیر و شر کے مصدر ہوئی ہے۔ جہت عدم ذاتی سے دنیا کسب شر کرتی اور جہت وجود ظلی سے کسب خیر کرتی ہے۔ فقط۔ اگر یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آجائے تو فہو المراد۔ ورنہ تو مولوی شیرازی صاحب سے مل کر بالمشافہ اس خط کے مضمون کو سمجھ لیں۔

وہ جو آپ نے عورتوں کی اجازت کے متعلق دریافت فرمایا ہے تو مخدومنا اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر سالک کو دوام حضور، فنائی قلب و تہذیب و اخلاق اور



اجتہاد سنت پر استقامت حاصل ہو جائے تو اس کو اجازت دیدیتے ہیں، مگر یہ اجازت کا ادنیٰ درجہ ہے اور اوسط و اعلیٰ درپیش ہے۔ لیکن عورتوں میں سے کسی خاص کو اجازت دینا مرشد کی رائے پر منحصر ہے۔ پر ایسا کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ طریقے میں آئندہ کسی قسم کا کوئی نقصان واقع نہ ہو۔



### ورثاء کے لئے مال چھوڑنا

حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میرے شدید درد کی وجہ سے عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میں نے کہا: میرا درد جس حد کو پہنچ چکا ہے وہ آپ ﷺ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سامان ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہو سکتی ہے، کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: ”نہیں“ میں نے کہا، آدھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں“ میں نے عرض کیا: اچھا ایک تہائی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں ایک تہائی، اور ایک تہائی بھی بہت ہے، اس لئے کہ تمہارا اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔“

## مکتوب ۳

بنام سید سردار علی شاہ صاحب

## باطنی ترقی کے انحصار کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

بخدمت سیادت و نجابت دستگاہ جناب سید سردار علی شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشی عثمان عثمی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات کے معلوم ہو کہ نامہ گرامی موصول ہو کر باعث مسرت ہوا۔ عاجز نے آپ کے لئے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سماوی و انفسی دشمنی کے شر سے خلاصی عطا فرمائے اور اپنی ذات پاک کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

عزیز من باطنی ترقی کا انحصار سچ بولنے اور حلال روزی پر ہے۔ نیز اپنے قول و فعل میں اٹھتے بیٹھتے، ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ طریقہ نقشبندیہ احمدیہ مجددیہ رضوان اللہ علیہم پر پورا پابند رہنا واجب ہے۔ یہ یاد رہے کہ شریعت شریف کے اتباع بغیر اگر مختلف قسم کے احوال مشاہدے میں آتے ہوں تو بزرگوں کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ سب کے سب بے سود ہیں۔ سالک کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو جس کا کوئی بدل نہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صرف کرنے کی دن رات جدوجہد کرتا رہے۔ پس شریعت کی اتباع کرنا لازمی ہے۔ اصلی مقصد یہی ہے ورنہ تو سب بے کار۔

فقط والسلام مع الاکرام

## مکتوب ۴

بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

فضول چیزوں سے پرہیز اور لوگوں کے

ساتھ حسب ضرورت میل جول

رکھنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

مخدومی و مکرمی جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر  
لاشی عثمان غفی کی طرف سے بعد تسلیم و تکریم معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم  
سے سب خیریت ہے۔ نیز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جمیع حوادث سے محفوظ رکھے  
آمین۔ اور شریعت پر پوری پوری استقامت عطا فرمائے۔ آمین

آپ نے ناموافق حالات اور زمانے کے اختلاف کی بناء پر جو اپنے باطنی  
حالات لکھے ہیں تو اس بارے میں عزیز من عرض یہ ہے کہ داستان عشق کی کوئی حد  
نہیں۔ آپ نے مفصل جواب دینے کیلئے کہا ہے لیکن بوجہ بخار ایسا کرنے سے  
قاصر ہوں عقلمند کیلئے اشارہ کافی ہے۔ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں۔ آجکل کے حالات اور  
زمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ پیران کبار علیہم الرضوان کی برکت سے سچے  
اعتقاد رکھنے والے مرید پر اس کی صلاحیت کے موافق فیض کا القاء کرتا ہے۔ شیطان



لعین و نفس امارہ دونوں کے دونوں انسان کے قوی دشمن ہیں جو ہر وقت ساتھ لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسے سالک پر جو مرید صادق ہو ان کا کوئی بس نہیں چلتا یہ بھی معلوم ہو کہ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے طریقے میں آخری مقامات میں نکارت و جہالت لازمی پیش آتی ہے، یعنی کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی فرمایا ہے کہ اس طریقے میں صحو خالص عوام کی قسمت میں ہے اور بے خودی مجنوں و دیوانوں کے لئے اور ان دونوں کے مابین کا معاملہ خاص خاص ملوں کے لئے ہے۔

الحمد للہ اس جل شانہ نے آپ کو اس قسم کے حالات سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے قیمتی اوقات کو حتی الوسع اس کے ذکر و فکر میں گزاریں۔ حدیث شریف کے پیش نظر اور پیران کبار علیہم الرضوان کے حالات کے موافق اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ حسب ضرورت میل جول رکھیں۔ باقی فضول چیزوں کی طرف کوئی التفات نہ کریں۔ شیخ عبداللہ یافعیؒ کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ”اولیاء کا فیض ہر چیز پر برستا ہے۔ چاہے وہ چیز فیض قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہو یا نہیں۔“



### تقدیر

ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جھاڑ پھونک کا ہمارے ہاں رواج ہے، دوا دار و اور علاج معالجہ بھی ہوتا ہے اور دشمن کا حملہ ہو تو ڈھال سے بچاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کو پھیر سکتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔“

## مکتوب ۵

بنام محمد امتیاز علی خاں صاحب

## پیر کی مخالفت اور قلب کی سلامتی

### کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على العباده الذين اصطفى.

اما بعد ! محبت و اخلاص نشان صداقت و اختصاص عنوان محمد امتیاز علی

خاں صاحب

اوصلك الله تعالى غاية مايتمنا .

بعد سلام مسنون و دعوات ترقیات دارین مشخون فقیر حقیر لاشے عثمان عفی

عنه کی طرف سے معلوم ہو کر کلی و جزوی حالات و عروض خطرہ وغیرہ اور روئداد خطرہ مع دلائل براہین سے آگاہی ہوئی۔

جناب من بندہ کے لئے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرائض میں

فرض، واجبات میں واجب اور سنن میں سنت ہے۔ پیران کبار کی پیروی کرنا اور ان کے

آداب و اطوار کر بجالانا مرید کی محبت و استطاعت پر منحصر ہے۔ اگر مرید اپنے پیر سے

محبت کرتا ہے تو وہ کسی کام میں بھی اپنے پیروں کے طریقے کے خلاف کوئی قدم نہیں



اٹھائے گا۔ پیر کی مخالفت اس کی باطنی ترقی میں یقیناً رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ بس حتی الوسع ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح کی پابندی ایسا مرید کر سکتا ہے جو شادی شدہ نہ ہو اور فارغ البال ہو یا اس کے پاس پہلے سے طریقہ حلال سے حاصل کی ہوئی روزی موجود ہو۔ اگر وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے پاس کوئی وجہ معاش نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو توکل میں کمال حاصل ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی خطرہ اور پریشانی اس کی جمعیت میں پیدا تو نہیں ہو جاتی اگر ہو جاتی ہے تو ایسے پریشان شخص کے لئے ضرورت کے مطابق حلال روزی کمانا فرض ہے۔

پس مرید صادق کو چاہئے کہ وہ غیر اللہ سے اپنے باطن کو پاک و صاف رکھے اور حضور اکرم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اتباع کرے اور پیران کبار کے آداب و اطوار کو ملحوظ رکھے۔ اپنا کام کرتا رہے۔ لوگ اسے برا کہیں یا اچھا اس کی کوئی پرواہ نہ کرے اور اپنے قلب کی سلامتی کو اپنا مطلوب و مقصود اعلیٰ جانے۔ جتنا بھی شریعت غراکی اتباع میں ظاہر و باطن طور سے کوشش کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔

اپنے کام میں لگے رہیں اور اہل دنیا سے جو دولت کے پجاری ہیں کوئی تعلق نہ رکھیں، جب سے آپ سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں اس وقت سے آپ کے اور ان کے درمیان مخالفت پیدا ہو گئی ہے۔ جناب من آپ پر واضح ہو کہ شریعت مطہرہ کے ظاہری احکام اور پیران کبار (قدسنا اللہ تعالیٰ باسرار الاقدس) کی قناعت و توکل کے طریقہ کار کے متعلق فقیر کو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کتابوں میں سب کچھ درج ہے جو آپ بخوبی جانتے ہیں ظاہری و باطنی احکام کی مخالفت سے پرہیز کریں۔ دنیا دار لوگ آپ سے قریب ہوں یا دور، آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں۔ طریقت کی اصلی غرض یہ ہے کہ ان سب باتوں یعنی ماسوی اللہ سے دل آزاد ہو۔ قلب کی سلامتی کا دار و مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غراکی پابندی پر ہے۔ بس یہی سب کچھ ہے اسکے علاوہ باقی چیزیں جزئیات میں سے ہیں۔ ان کے متعلق بالمشافہ عرض کروں گا۔



## مکتوب ۶

بنام حاجی حافظ محمد خاں صاحب

## قیمتی وقت کو ذکر الہی میں صرف

### کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

اما بعد محبت و اخلاص نشان مؤدت و اختیاص عنوان جناب حاجی حافظ محمد خاں صاحب۔ فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنونہ و دعوات ترقیات دارین مشخونہ کے معلوم ہو کہ مکتوب گرامی جس میں آپ نے دشمنوں کی عداوت کے متعلق تحریر کیا تھا موصول ہوا۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری و باطنی دشمنوں کے شر سے اپنے حفظ دامن میں رکھے اور آپ کے تمام دلی و جانی مقاصد بر لائے آمین۔ نیز اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اپنے عزیز واقارب کی نظروں میں عزت و سرخروئی عطا فرمائے۔

حقیقی کار ساز اللہ جل شانہ پر بھروسہ کر کے پیران کبار علیہم الرحمۃ والرضوان کا واسطہ دے کر بغیر کسی خوف و خطر کے حاکم وقت کے سامنے ہمت و حوصلے کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز برہانہ آپ کو الزام سے بری کر دیگا۔

ہر مشکل کا حل موجود ہے۔

اے عزیز اپنے دنیاوی کاموں سے فرصت پا کر باقی ماندہ قیمتی وقت کو ذکر الہی میں صرف کریں۔ شغل باطنی دوسرے کاموں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ اپنے وقت کو بے کار ضائع نہ کریں۔ جو کچھ کرنا ہے وہ آج کر لو۔ کل سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

زیادہ والسلام



## خدا کی ڈھیل

عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ معصیت اور نافرمانی کے باوجود بندے کو اس کی خواہش اور پسند کے مطابق دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے (تو سمجھ لو) کہ یہ (خدا کی طرف سے) ڈھیل ہے“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”جب وہ ان باتوں کو بھول گئے جن کی ان کو نصیحت کی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دئے، یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی نعمتوں میں مست اور مگن ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ پھر اچانک وہ مایوس نظر آتے ہیں۔“ (احمد)

## مکتوب ۷

بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

دنیا کے چند ترنوالوں کی خاطر اپنے

دین کو برباد کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

ابا بعد مخدومی و مکرمی جناب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضہ و عنایہ،  
فقیر حقیر لاشے عثمان غنی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و تکریمات معلوم ہو کہ آپ  
کے دو مکتوب گرامی یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد موصول ہو کر  
کاشف احوال ہوئے۔ مولوی کی گفتگو کے متعلق پڑھ کر تعجب ہو اور دعا مانگی۔

اللّٰهُمَّ لَا تَكُنْ لَنَا إِلَى نَفْسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ.

اے ہمارے خدا آنکھ کے جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں  
ہمیں اپنے نفسوں کا خیال بھی نہ آنے دے، یعنی ہر لمحہ ہمیں اپنے  
نفسانی خطرات سے محفوظ رکھ۔

تعجب اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب نے دنیا کے چند ترنوالوں کی خاطر  
جس کے بغیر تھوڑے پر بھی گزارہ ہو سکتا ہے اپنی ریاضات و مجاہدات کے ذریعے اپنی  
جان کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور اس دو لہتمند کی خاطر جو حقیقت میں سب سے زیادہ مفلس و



نادار ہے صراطِ مستقیم سے کنارہ کشی کی ہے۔ ہائے افسوس اکابرین و مقبولین عرب و عجم کے مقابلے میں مجوس عقل کی نظروں میں اپنے آپ کو بہتر و افضل منوایا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا معتقد و گرویدہ بنائے اور ان کے مال و زر پر ڈاکہ ڈالے۔ کیا یہ عقلمندی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جھوٹا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو اور فقیر کے دوستوں کو اس قسم کی ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ فی الحقیقت آپ کے لئے یہ عبرت کا مقام ہے۔ غور تو کرو کہ اس قدر سالوں کی ریاضت و مجاہدے کے بعد بھی اس کو کچھ ثمرہ حاصل نہ ہوا۔ حالانکہ خود غلطی پر تھا لیکن اپنی غلطی کو اکابر دین متین کی طرف منسوب کیا۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

اللهم لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتہ

انک انت الوہاب ط

ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور اپنے کام یعنی ذکر الہی میں مشغول رہیں اور ایسی خوشی سے جو جلد ہی آئے اور جلد ہی چلی جائے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔



## پانچ سوالات

حضرت ابن مسعودؓ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (قیامت کے دن) انسان کے قدم (اپنی جگہ سے) ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اُس سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ۱۔ عمر کن کاموں میں گنوائی؟ ۲۔ جوانی کی توانائیاں کہاں صرف ہوئیں؟ ۳۔ مال کہاں سے کمایا؟ ۴۔ کہاں خرچ کیا؟ ۵۔ جو علم اُسے حاصل ہوا اُس پر اُس نے کہاں تک عمل کیا؟ (ترمذی)

## مکتوب ۸

بنام حق داد خاں صاحب

دولت مندوں کی محبت جو قلب کو مگر

کر دیتی ہے انسان کی جانی دشان ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى!

اما بعد محبت و اخلاص نشان مودت و اختاص عنوان حق داد خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب۔ فقیر حقیر لاشی عثمان عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات معلوم ہو کہ خیریت نامہ موصول ہوا۔ گردش زمانہ کی وجہ سے ذریعہ معاش کے متعلق جو آپ نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا ہے اس سے آگاہی ہوئی۔

دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو دنیا کے جھگڑوں اور تفکرات سے نجات دلائے اور قلبی سکون عطا فرما کر آپ کی کل مرادیں برلائے اور آپ کو اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے۔ فقیر کو ہر حال میں خواہ آپ کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی اپنے خاندان کے لئے دعا گو تصور فرمائیں۔

جناب من ”کل اناء یترشح بما فیہ“ اول فقیر خوار و بے اعتبار تھا۔ فقیر

آپ کی موجودگی میں آپ کو حاضر پر قناعت کرنے کی ترغیب دیتا تھا مگر چونکہ غربت

لوگوں کی نظر میں ایک بری چیز ہے اس لئے لوگوں نے آپکو کسی دولتمند کی ملازمت اختیار کرنے کی رائے دی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں وہ دولتمند خود محتاج و غریب ہے۔ اسکی مجلس خدائے وحدہ لا شریک کے ذکر و فکر سے خالی ہے۔ ضرورت کی وجہ سے مجبوراً آپ کا قیمتی وقت جس کا کوئی بدل نہیں ان بے دینوں کی فوشی و خاطر داری میں صرف ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔

”الوقت سیف القاطع“

یعنی وقت کاٹنے والی تلوار کے مانند ہے۔ بس آپ کے مال میں برکت اور لب میں صفائی اس لئے نہیں رہی کہ آپ کو پہلے کی طرح آزادی اور بے تعلقی نصیب میں یہ سب کچھ نقصان اور ضرر جناب صادق مصدوق حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق آپ کو پہنچا ہے۔ وہ یہ کہ دولتمندوں کی صحبت انسان کی دشمن ہے۔ ورنہ تو فقیر نے ہمیشہ آپ کے لئے دعا کی ہے اور انشاء اللہ تاحیات اسی رح آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب قبلہ و کعبہ نور اللہ علی مرقدہ، الشریف کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات رفع دفع کریگا۔ بد دل نہ س۔ ہمیشہ حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرار ہم اسامی کا واسطہ دے کر اپنے غموں سے خلاصی اور حاسدوں اور دشمنوں پر فتیابی کے لئے دعا مانگا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔



### چار چیزیں

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چار چیزیں ہیں جسے وہ میسر آگئیں اُسے دُنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوگئی، ۱۔ شکر گزار دل، ۲۔ خدا کو یاد کرنے والی زبان، ۳۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ۴۔ ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔“ (بیہقی)



## مکتوب ۹

بنام میاں غلام محی الدین صاحب

## نفس کی مخالفت اور اپنے معمولات

### میں میانہ روی کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

اخوی واعزی ارشدی میاں محی الدین صاحب بعد سلام مسنونہ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے کے جملہ حوادث و مصائب سے محفوظ رکھے۔ آپ کا مکتوب گرامی موصول ہو کر باعث مسرت ہوا۔ اے بھائی یہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔

عقلند کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس و ہوس کی مخالفت میں کوشش کرے۔ نفس کی مخالفت صادق صدوق حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاد اکبر ہے۔ پس مومن صادق کے لئے لازم ہے کہ وہ نفس کی مخالفت کے لئے وہ طریقے اختیار کرے جو کہ اہل اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں۔

اول! روزہ افطار کے وقت تھوڑا کھائیں اور روزہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔

دوم۔ مہینے یا دو مہینے میں ایک مرتبہ فصد کھلوائیں (پہلے زمانے میں علاج کا

ایک طریقہ تھا)۔

سوم۔ پیدل چلنا ہر روز اس قدر پیدل چلیں کہ آپ تھک جائیں اور خوراک

اتنی کھائیں کہ پیٹ کا ایک تہائی حصہ بھر جائے اور پانی کم پیئیں۔ اہل اللہ نے نفس کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے مذکورہ طریقے نافذ کئے ہیں۔ فقیر کے بزرگ اپنی خوراک، پوشاک، سونے بیٹھنے اور دوست دشمن کے ساتھ میل جول رکھنے میں میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ نفس و شیطان کی مخالفت کے بارے میں جو مندرجہ بالا طریقے تحریر کئے ان سے یہ مقصد ہے کہ انسان ہلکا پھلکا رہے تاکہ پنج وقتہ نماز میں آسانی سے اٹھ بیٹھ سکے۔ ہاں اتنا خیال رہے کہ دن رات میں ایک تہائی خوراک ایک وقت میں ضرور کھائیں تاکہ بالکل ہی لاغر و کمزور نہ ہو جائیں۔

یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے پانچوں وقت توجہ باطنی مولوی صاحب سے لیا کریں۔ اس پر بھی اگر کام نہ بنے تو فقیر کو مطلع فرمائیں۔



## مسافر کی سی زندگی

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑتے ہوئے فرمایا: ”تم دنیا میں اس طرح رہو، گویا تم مسافر ہو یا رہ گزر۔“ ابن عمرؓ فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کے زمانے میں بیماری کے وقت کے لئے (نیکیوں کا توشہ) لے لو، اور زندگی میں موت کے لئے (عمل کا سرمایہ) فراہم کر لو۔“ (بخاری)

## مکتوب ۱۰

بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

## غیر جنس کی صحبت اور اجازت

## مقید کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

مخدومی و مکرمی جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضہ و عنایت، فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ کے معلوم ہو کہ الحمد للہ یہاں کے حالات اللہ کے فضل و کرم سے حمد کے لائق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سلامتی و عافیت عطا فرمائے اور ظاہری و باطنی مصائب و پریشانیوں سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

آپ کے دو مکتوبات گرامی یکے بعد دیگرے موصول ہوئے مولوی صاحب کے حالات سے آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اور آپ کو اس قسم کے خیالات فاسدہ سے بچائے اور اپنی ذات اقدس اور پیران کبار قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم الاقدس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔



آپ نے اپنے احوال باطنی کے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے یہ سب کچھ اپنے پیران کبار کے سلوک کے عین موافق ہے۔ آپ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف جلد اول میں اس کی تفصیل پوری طرح ملاحظہ فرمائیں اور کنز الہدایت میں بھی اس کا حال لکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سالک کا معاملہ اصل کے اصل تک پہنچتا ہے تو پچھلے حالات گرد و غبار کی مانند اُڑ جاتے ہیں۔ ذوق و شوق کی بجائے یاس و حرمان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكر متواصل

الحزن

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر اور غمگین رہا کرتے تھے۔

اپنے شغل باطنی یعنی اللہ جل جلالہ کا ذکر نفی و اثبات و تہلیل لسانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مراقبات درود شریف و استغفار کرنے میں سرگرم رہیں اور خلق خدا پر بھروسہ نہ کریں اور اس سے ناامید رہیں کیونکہ غیر جنس کی صحبت درویش کے لئے زہر قاتل ہے۔ ضرورت کے مطابق خلق خدا سے میل جول رکھیں۔ بس عقلمند کے لئے اشارہ کافی ہے۔ آپ تو خود عالم و دانا ہیں۔ تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ فقط

آپ نے جو اجازت مقید کے متعلق دریافت فرمایا ہے تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اہل اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سالک کو اس مقام پر سرفراز فرماتا ہے تو مرشد اس کو اجازت مطلقہ دے دیتا ہے۔ بعض کو ایک طریقہ خاص کی اور بعض کو دو طریقوں میں اجازت دے دیتا ہے۔

بہر حال درویش میں جس قسم کی صلاحیت و استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ بعض پیر مصلحت وقت کے پیش نظر اپنے مرید کو ایک محدود جماعت کے لئے فیض پہنچانے کی اجازت سے مشرف فرماتے ہیں، یعنی اس کے لئے مریدوں کی تعداد محدود کر دی جاتی ہے۔

مقامات مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت کے تین درجے مقرر کئے ہیں۔ (۱) اعلیٰ، (۲) ادنیٰ، (۳) اوسط، آپ اس کتاب کے صفحہ ۳۸ کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب واجد علی خان صاحب کے پاس ہے۔ حضرت محبوب سبحانی مجدد منور الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کی اتباع کرنے والے پیر اپنے مریدوں کو ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت سے مشرف فرماتے ہیں۔ مگر جب مرید دوسرے طریقے کے لئے اجازت طلب کرتا ہے تو اس کی خوشنودی کے لئے دوسرے طریقے کا شجرہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس پر مجددیہ سلوک کا ارشاد بھی ساتھ ہی ساتھ عنایت فرماتے ہیں۔

یہ بزرگان دین فی الحقیقت حکیم ہیں۔ حکیم کا کام یہ ہے کہ موسم اور مریض کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے مریض کو دوا استعمال کرائے۔ اسی طرح بزرگان دین بھی مرید کی استعداد و صلاحیت کے پیش نظر اجازت کا حکم فرماتے ہیں۔

فقیر نے آپ کو اجازت مطلقہ دی ہے لیکن اجازت مطلقہ کی سند ابھی تک نہیں لکھی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بہر حال آپ کو اجازت مطلقہ دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اس اجازت کو آپ کے لئے برکات عظیمہ کا موجب بنائے، آمین

بالنون والصاد وآلہ الامجاد علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات

آپ یہاں آنے کے لئے عجلت سے کام نہ لیں بلکہ پہلے وہاں کا کام کسی معتمد و معتبر شخص کے سپرد کریں۔ کیونکہ آج کل چالاک اور متفنی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ فرصت کو غنیمت شمار کریں۔ حقیقی محبت کرنے والا مرید اپنے شیخ سے دور نہیں ہوتا، اپنی محبت کے معیار کے مطابق وہ دور سے ہی اپنے شیخ سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ شہر یمن میں بھی سکونت اختیار کریں تو حقیقت میں آپ میرے پاس ہی ہیں۔ فقیر مع دل و نظر فیض آپ کے ساتھ ہے۔ ہمت و چستی سے کام لیں اور دن رات اس مولائے حقیقی جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب جوانی کا عالم ہے۔ ضعیفی میں کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ حالات و کیفیات و

ادراکات کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ کیونکہ واجب حقیقی جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ باقی اشیا اس پر مرتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی عطا سے سرفراز فرمائیں یا نہیں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔

دادیم ترا از گنج مقصودِ نشان

گرما نرسیدیم تو شاید برسی

ہم نے آپ کو منزل مقصود کا پتہ بتا دیا ہے اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید آپ اپنی کوششوں سے پہنچ جائیں۔

فقط والسلام



## جامع ترین نصیحت

ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے کہا مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر لفظوں میں فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نماز میں کھڑا ہو تو اُس شخص کی سی نماز پڑھ جو رخصت کیا جا رہا ہے، اور ایسی بات منہ سے نہ نکال جس کے بارے میں کل عذر پیش کرنا پڑے اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اُس سے قطعی طور پر مایوس ہو جا۔“ (مشکوٰۃ)



## مکتوب ۱۱

بنام مولوی حسین علی صاحب

## محبت معنوی کے حصول یعنی رابطے

### کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

فضیلت پناہ حقائق و معارف آگاہ مولوی حسین علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن

جمع المحوٰث والنوائب۔

فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات مسنونہ و دعوات مشحونہ معلوم ہو کہ یہاں کے حالات حمد کے لائق ہیں۔ فقیر آپ کی سلامتی و عافیت کے لئے دعا کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت مطہرہ پر بھی ثابت قدم رکھے، آمین۔

آپ کا مسرت نامہ نیک ساعت میں موصول ہوا، خیریت سے آگاہی ہوئی، جناب من آپ کا حالت مرض میں فقیر کی دلجوئی کرنا اور فقیر کا بیت اللہ شریف میں آپ کو توجہ دینا دونوں امر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کو محبت معنوی کا حصول ہے جس کو صوفیوں کی اصطلاح میں رابطے سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقراء نے اس رابطہ کو فیوضات و برکات کے حاصل کرنے کا وسیلہ مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس محبت کے شعلہ تابندہ کو اور زیادہ بھڑکائے۔

زیادہ والسلام

آمین۔

## مکتوب ۱۲

بنام ملا ابراہیم صاحب

”بندے کے لئے بندگی ہے“ کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

محبت و اخلاص نشان ملا ابراہیم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ مراسلہ شریف عدم حصول کے مطلب کے متعلق موصول ہوا۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ جناب من فقراء کے نزدیک اصلی مقصد ماسوئی اللہ سے تعلق قطع کر لینا ہے اور ظاہری و باطنی طور سے محبوب حقیقی جل شانہ کی محبت میں سرشار ہونا ہے۔ جمیع اہل بصیرت کو واضح ہو کہ دینی و دنیاوی فائدے کا حاصل کرنا مرید حقیقی کے ارادے پر موقوف ہے۔ میرا اور آپ کا تو محض ایک بہانہ ہے۔ واجب الوجود جل شانہ نے بندوں پر اپنی عبادت فرض کر رکھی ہے، چنانچہ فرمایا!

واعبد ربك حتى ياتك اليقين O

یعنی اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آجائے۔ جاننا چاہئے کہ دینی اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وسیلے مقرر کئے ہیں۔ پس آپ کے لئے ضروری ہے کہ پیران کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کے مطابق اپنے قیمتی وقت کو اللہ جل شانہ کے ذکر و فکر میں گزاریں، یہاں تک کہ ایک لحظہ اور ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے غفلت میں گزرنے نہ پائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کا کام اس کی بندگی کرنا ہے۔ فقط اللہ بس باقی ہو س۔

## مکتوب ۱۳

بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

## وصال حسی کے بارے میں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

مخدومی و مکرمی جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب و افاض اللہ تعالیٰ من فیوضاته و برکاته علیکم و علی من لدیکم آمین ثم آمین۔

فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و تکریمات معلوم ہو کہ مسرت نامہ بابت کیفیات کثیرہ شرف صدور لاکر کاشف احوال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک کوششوں کو مقبول فرمائے۔ اور اپنی محبت میں جیسا کہ بزرگوں کی تمنا رہی ہے آپ کو سرفراز فرمائے۔

آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ عاشقوں کو محبوب سے سوائے خرابی و جان کی بربادی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو جناب من عرض یہ ہے کہ عاشق صادق کو معشوق کے وصال حسی کے بغیر تسکین نہیں ہوتی اور نہ ہی درد کا سلگتا ہوا شعلہ بجھ سکتا ہے۔ لیکن اس دارفانی میں ان آنکھوں سے اس کا دیدار کرنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشاق اپنے مقصود میں ناکامی کے باعث درد و الم اور ناامیدی میں مبتلا رہتے ہیں۔

قابل حصول درجہ اسماء صفات کے ظلال سے تعلقات رکھتا ہے اور ناقابل



حصول کا درجہ تجلی ذاتی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ناقابل حصول کا درجہ عاشقوں کو قابل حصول کے بعد حاصل ہو جائے تو بھی یہ عاشق خدا اس دردِ دالم کے بدلے میں جو ان کے لئے ایک نعمتِ عظمیٰ ہے سینکڑوں سجدہ شکر بجالائیں گے۔

لن شکرتکم لا زید نکم

اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم ضرور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔

جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہے۔ گستاخی معاف فرمائیں۔ اس مضمون کی وضاحت اپنے حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم السامی کے مکاتیب ستہ میں بالتفصیل درج ہے۔

زیادہ والسلام



### عمل کا دار و مدار

حضرت عمرؓ بن الخطابؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کے لئے بس وہی کچھ ہے جس کی اُس نے نیت کی ہے، تو پھر جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے تو (واقعی) اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دُنیا کی طرف ہے کہ اُسے حاصل کرے یا عورت کی طرف ہے کہ اُس سے شادی کرے تو (واقعی) اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی (نیت کی) ہے۔“ (بخاری، مسلم)

## مکتوب ۱۴

بنام جناب مولوی نور محمد صاحب

## حرف ”ضاد“ کے صوت کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

فیض مآب مولوی نور محمد صاحب چیلا دام فیضہ، بعد تسلیمات و تعظیمات معلوم ہو کہ صوت حرف ”ضاد“ کی ادائیگی نہ اس طرح صحیح ہے جیسا کہ داماں کے لوگ قریب ”دال“ کے ادا کرتے ہیں اور نہ اس طرح صحیح ہے جیسا کہ اہل نجارا مشابہ ”بالظا“ ادا کرتے ہیں بلکہ ”ض“ کا صوت ”ذ“ اور ”ظ“ کے درمیان ہے۔ حضرت قبلہ و کعبہ نے عراق کے قاریوں سے بغداد شریف میں تجوید سے قرآن شریف پڑھنا سیکھا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ اختلاف فتویٰ وغیرہ کے لکھنے سے دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اختلاف کا ثنا صوت کے سننے پر موقوف ہے۔ فقیر کو اس معاملے میں معذور تصور فرمائیں۔

فقط والسلام



## مکتوب ۱۵

بنام جناب مولوی حسین علی صاحب

## آثار جمیلہ کے جواب کے بارے میں

جناب محامد نصاب کرمی و معظمی مولوی حسین علی صاحب خصصہ اللہ تعالیٰ ببلوغ المراتب۔ بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ نامہ گرامی موصول ہوا، آپ کے مزاج شریف کا علم ہوتے ہی طبیعت کو فرحت و مسرت حاصل ہوئی، نسبت رابطہ کے غلبہ کی وجہ سے جو آثار جمیلہ نوازش نامہ میں درج کئے تھے، بہت ہی مبارک ہیں۔ اس راستے پر چلنے کے متمنی (بحکم ارشاد عالی ”المراء مع من احب“ یعنی جو کسی کو دوست رکھے گا قیامت کے روز اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا) کمالات اصل سے بہرہ مند اور اس کے تروتازہ پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ہنیئا لا رباب النعیم نعیمہم

یعنی اصحاب نعم و جاہ کو ان کی نعمتیں و راحتیں مبارک ہوں۔

اور دوسرے وقائع جو اس پر بشارت کی دلیل ہیں وہ اسی معنی کی برکات سے ہیں۔ گو فقیر ان معنی کے لائق تو نہیں لیکن پیر دستگیر کے تصرفات کی بدولت

نفعنا اللہ تعالیٰ برکاتہ و افاض فیوضاتہ

امید وار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معنی کے لائق کرے گا۔ کریموں کے لئے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔





## مکتوب ۱۶

بنام جناب محمود شیرازی صاحب

## مقامات فوقانی کی کیفیات کے بارے میں

مخدومی مکرمی جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں آپ کے درجات بلند کرے۔

فقیر حقیر لاشیٰ عثمان عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات و تکریمات کے بعد معلوم ہو کہ مسرت و راحت نامہ موصول ہوا آپ کی اور برخوردار سعادت اطوار کی خیریت سے آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خیر و عایت سے رکھے اور حضرت صاحب قبلہ نور اللہ تعالیٰ مرقدہ الشریف و برد اللہ تعالیٰ مضجعہ اللطیف کے برکات و فیوضات سے آپ کو سرفراز فرمائے۔ یہ فقیر بھی بفضل تعالیٰ مع جمیع عزیز و اقربا بخیریت ہے۔ تسلی رکھیں۔ یہ عاجز آپ کے لئے ہمیشہ دعا گو ہے۔ خداوند کریم ہم عاجزوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین

جب سالک مقامات فوقانی پر پہنچتا ہے تو اس کو نایافت، حیرت و یاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا اور جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ سالک کے ادراک سے وراء الوراثم وراء الوراہوتا ہے۔ کیونکہ وجود و توابع وجود اس سے زائل ہو جاتے ہیں۔ ذات بحت سے فیوضات کا فیضان وارد ہونے لگتا ہے۔ جس کا ادراک میں آنا تو درکنار بلکہ وہاں تک ادراک کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو امام الطریقہ علیہم الرضوان کی خاص الخاص نسبت سے سرفراز فرمائے اور آپ کے فیوضات باطنی سے جمیع عالم فیضیاب ہوں۔

## مکتوب ۷۱

بنام جناب قاضی امیر بخش صاحب

## نفی اثبات کے انوکھے طریقے اور منشرع

### پیروں کی اتباع کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامداً و مصلياً. محبت اخلاص نشان قاضی امیر بخش صاحب سلمہ فقیر حقیر  
لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنونہ معلوم ہو کہ نامہ گرامی جس میں نفی  
اثبات کے متعلق کیفیات درج ہیں، موصول ہوا۔ جمیع حالات سے آگاہی ہوئی عزیزم  
فقیروں کا کام قیاسی نہیں سماعی ہے۔ جو کچھ بھی منشرع اور کامل پیروں نے لکھا ہے اس  
کی مخالفت سے مریدوں کو منع کیا گیا ہے۔ فقیر کو معلوم نہیں کہ کس فقیر نے آپ کو  
نفی اثبات کی اجازت دی ہے۔ اسی سے اس کا طریقہ معلوم کریں۔ فقیر کے بزرگوں کا  
تو یہ طریقہ رہا ہے کہ چند بار نفی اثبات کرنے کے بعد آخر میں سانس چھوڑتے وقت محمد  
رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس طریقے میں اپنا نام لینا ہم نے نہ تو کسی پیر و مرشد سے سنا اور نہ  
ہی ان کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ طریقت کا کام سالک کی فکر سے وراء الورا ہے۔ ان کا  
طریقہ سمجھ میں آئے یا نہیں لیکن ان کی اتباع کرنا ہمارے لئے لازمی ہے۔

نفظ والسلام

## مکتوب ۱۸

بنام جناب غلام محی الدین صاحب

## اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے

### والے کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

اخوی واعزی ارشدی میاں غلام محی الدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر حقیر  
لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ مسرت  
نامہ موصول ہوا۔ خیریت و حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔

میرے دوست اصل میں آج کل طالبان عالم کادلی نشادنیہ کی دولت کا جمع  
کرنا ہے۔ بھائی جان آپ کو قادر مطلق جل شانہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ زیادہ کی کیا  
ضرورت ہے۔ البتہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دنیوی جاہ و  
منصب کی پرواہ نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے عارضی سانسوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں  
گزارتا ہے۔ ایسا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہزاروں میں سے ایک ہی جانباڑ ملتا ہے جو سردھڑکی  
بازی لگا دیتا ہے۔ بس جس قدر میری ناقص سمجھ میں آیا وہ آپ کو تحریر کر دیا۔

عشق آن شعلہ است چوں بر فروخت

ہر کہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

یعنی عشق ایک ایسا شعلہ ہے کہ جب بھڑکتا ہے تو سوائے معشوق کے باقی

سب چیزوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔



## مکتوب ۱۹

بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

اپنے اوقات عزیزہ کو یاد مولیٰ میں معمور

رکھنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

مخدومی و مکرمی جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضہ، و

برکاتہ

فقیر حقیر لاشی عثمان غنی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و تکریمات معلوم ہو کہ اپنے اصلی کام میں مصروف رہیں یعنی مولا کی یاد میں اپنا وقت گزاریں۔ ان تاریک راتوں کو خدا کے ذکر و اذکار و استغفار کے ذریعہ روشن کریں۔ یاد رہے کہ ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرنے نہ پائے۔ اب جوانی کا عالم ہے۔ کام کرنے کا وقت ہے۔ کل جب کہ بڑھاپا آئے گا تو سوائے حسرت و ندامت کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ فقط

جناب من اپنے حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم السامی کی نسبت خاص جب اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے تو مشاہدہ اور ادراک کی رسائی نہیں رہتی۔ اور وہ بھی کیسے سکتی ہے جبکہ فیض ذات بحت سے القا ہوتا ہے۔ مشاہدہ و ادراک ظلال و صفات و اعتبارات میں پائے جاتے ہیں، لیکن جب اس سے بالاتر مقام پر پہنچ جاتی ہے تو حیرت، جہل و نکارت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ معاملہ تو کچھ ایسا پر لطف ہے کہ

من لم يذق لم يدرك

یعنی جب تک کہ تو اس کا ذائقہ نہیں چکھے گا اس کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال و ہر حالت میں ادا کیا کریں۔ خداوند کریم کا فرمان ہے کہ اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ نعمتیں دیں گے۔ فقیر آپ کے حال احوال کی بہتری کے لئے ہمیشہ دعا گو ہے۔ فقیر کو غافل تصور نہ فرمائیں۔  
فقط والسلام



## صدقے کی وسعت

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے۔ ایک بار الحمد للہ کہہ دینا صدقہ ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تم میں سے کسی ایک کا اپنی صنفی خواہش پوری کرنا صدقہ ہے۔“ لوگوں نے دریافت کیا: ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس پر بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، اگر وہ اپنی خواہش ناجائز طور پر پوری کرتا تو کیا وہ گناہ گار نہ ہوتا؟ اسی طرح جبکہ اُس نے اپنی خواہش جائز طور پر پوری کی ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔“ (مسلم)

مکتوب ۲۰

بنام جناب مولوی حسین علی صاحب

صادق مرید کو داخل سلسلہ کرنے اور

علم ظاہری کی تعلیم و تدریس

جاری رکھنے کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

جناب فیض مآب حضرت مولوی حسین علی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے

درجات بلند فرمائے۔

فقیر حقیر لاشیٰ عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات مسنونہ معلوم ہو کہ نامہ گرامی موصول ہوا۔ آپ کی اور دوسرے احباب کی خیریت سے آگاہی ہوئی نیز شہر سے اپنی زمینوں کی طرف چلے جانے، لوگوں سے بیزار ہونے اور رابطہ قلبی وغیرہ کے حالات سے بھی مطلع ہوا۔ جناب من جب دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور عشق پیدا ہو جاتا ہے تو مجبوراً غیر اللہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ قلب ایک حقیقت جامع ہے جسے بسیط کہتے ہیں، بس اس میں ایک ہی چیز سما سکتی ہے۔ باقی آپ نے جو قوت



رابطہ کے متعلق تحریر فرمایا تھا تو معلوم ہو کہ نسبت باطنی کے حصول کے ذریعہ کو رابطہ کہتے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجلائیں۔

آپ نے مرید نہ بنانے کے متعلق جو تحریر کیا ہے اس بارے میں عرض ہے کہ اگر کوئی صادق مرید آئے اور بیعت کرنے کے لئے منتیں کرے تو اس کو ضرور سلسلے میں داخل کریں اور اس کو اہم باتوں کی نصیحت کریں۔ علم ظاہر کی تعلیم و تدریس سے جی نہ چرائیں۔ علم ظاہر کا شغل حد اعتدال تک ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔

فقط والسلام



## بخیل اور سخی کی مثال

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو شخصوں کی سی ہے جنہوں نے لوہے کی زد ہیں پہنی ہوئی ہیں، ان دونوں کے ہاتھ سینے اور حلق تک جکڑے ہوئے ہیں۔ فیاض انسان جب صدقہ دیتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہو جاتی ہے اور بخیل جب صدقہ دینے کا خیال کرتا ہے تو وہ زرہ اور تنگ ہو جاتی ہے اور زرہ کا ہر حلقہ (چھلا) اپنی جگہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ (مسلم)

## مکتوب ۲۱

نام جناب میاں احمد خاں صاحب

## پنج وقتہ نماز ادا کرنے اور ذکر اللہ میں

### مشغول رہنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى!

مجی و مخلصی میاں احمد خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشی عثمان غنی  
 عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنونہ معلوم ہو کہ نامہ گرامی جس میں آپ نے سلسلے میں  
 داخل ہونے اور کوئی ورد عطا کرنے کی استدعا کی ہے موصول ہوا۔ جناب من حضرت  
 لعل شاہ صاحب مرحوم کے جتنے بھی مرید ہیں ان کو تجدید بیعت کی ضرورت نہیں۔  
 خدا کے فضل سے جب آپ فارغ التحصیل ہو جائیں اور اس کے بعد سلسلے میں داخل  
 ہونے کا مصمم ارادہ ہو تو پھر تجدید بیعت کریں۔ فی الحال کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں  
 اور فرصت کے وقت شغل باطنی کا طریقہ جو جناب مرحوم نے آپ کو بتایا تھا اسی کو  
 کرتے رہیں، دوسرے کسی اور ورد وغیرہ میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے  
 بزرگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ذکر اسم ذات میں اپنی ہمت صرف کر دیں، ان کو اوراد وغیرہ  
 سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ فرصت کے وقت اپنے کام میں سرگرم رہیں اور جہاں تک  
 ہو سکے بغیر کسی سستی و کاہلی کے پنج وقتہ نماز باجماعت اول وقت میں ادا کریں۔ غیر  
 شرعی کاموں سے پرہیز رکھیں۔ فقط والسلام

## مکتوب ۲۲

بنام فرزند ارجمند خواجہ خواجگان محمد سراج الدین صاحب

مطالعے میں دل لگانے اور بوقت فرصت

لطائف پر ذکر کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

برخوردار سعادت اطوار عزیز از جان محمد سراج الدین طال عمرہ معہ علمہ و صلاحہ و فلاحہ۔ فقیر حقیر لاشئ عثمان غفی عنہ کی طرف سے بعد از تسلیمات و دیدہ بوسیہا کے معلوم ہو کہ آپ کے متعدد خطوط موصول ہوئے حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ اے میرے لخت جگر اپنی عقل و ہوش کے ساتھ متوجہ ہو کر سنو! بیٹا طبعاً باپ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور والد کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو تمام نیک کاموں میں چاہے وہ کسی ہوں یا وہی مہارت حاصل ہو جائے۔ اس کی توفیق دینے والا اللہ جل شانہ ہی ہے۔ اور فقیر کثرت حرص کے سبب بطور ترغیب و ترہیب آپ کو نصیحت کر رہا ہے نہ یہ کہ میں آپ سے ناراض یا خفا ہوں۔ اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور اپنے کام میں سرگرم رہیں۔ اس زمانے کے حالات سے چشم پوشی کریں اور کار شریعت میں مشغول رہیں۔ ہر فاعل و قائل کو اپنے قول و فعل کی جزا ملنی ہے نہ کہ دوسرے کو۔ لہذا بار بار لکھ رہا ہوں کہ حتی الوسع دل لگا کر اپنے کتابوں کے مطالعے میں



بہت محنت سے کام لیں۔ اس کے بعد نتیجہ و ثمرہ مرتب کرنے والا اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے نہ کوئی اور۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے!

ان سعيكم لشتى ط

یعنی تم میں سے ہر ایک کی کوششیں مختلف ہیں۔

مزید گفتگو بالمشافہ کی جائے گی۔

جب بھی آپ کو فرصت ہو لطیفہ قلب و دوسرے لطائف پر ذکر کرتے

رہیں۔ وقت کو ضائع نہ کریں اور دل سے یہ نکال دیں کہ فقیر آپ سے ناراض ہے۔

مشکلے نیست کہ آساں نہ شود

مرد باید کہ ہر اسماں نہ شود

کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ ہاں مرد کو چاہئے کہ

ہمت سے کام لے۔ گھبرانے سے کوئی کام نہیں بنتا۔

انسان کو گرمی و سردی دونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد

باری ہے!

کل من عند اللہ وما اصابك من مصيبة باذن اللہ

یعنی اے انسان ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو مصیبت بھی

تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔

اپنے بارے میں فقیر کو غافل تصور نہ کریں۔

فقط والسلام



## مکتوب ۲۳

بنام مولوی محمود شیرازی صاحب

## مقامات محمدیؐ و احمدی میں ترقی کے لئے

### درود شریف کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

جناب فیض مآب حضرت مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضہ و برکاتہ، حقیر فقیر لاشی عثمان عفی عنہ بعد تسلیمات و دعوات معلوم ہو کہ آپ نے جو نسبت باطنی کی کیفیت کے متعلق تحریر فرمایا ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ یہ کیفیت بالکل صحیح ہے اور اپنے حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم السامی نے جو کتابوں میں لکھ دیا ہے عین اس کے مطابق ہے لیکن بعضے جملوں میں اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ اللہ شانہ امام الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمیع مقامات فوقانیہ میں روز بروز ترقی عطا فرمائے۔ حقیقت محمدی و حقیقت احمدی میں اس درود شریف کے پڑھنے سے نسبت باطنی کو ترقی ہوتی ہے وہ یہ ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلْ

صَلَوٰتِكَ بَعْدَ مُعْلُوْمَاتِكَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ -

یہ حقیر عاصی پر از معاصی درود شریف کی نسبت تہلیل لسانی بکثرت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ غلبہ امراض کے وقت بھی یہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ مراقبہ میں تہلیل لسانی چھوڑ دینا چاہئے۔ باقی ہر اس چیز کو جس سے جمعیت قلب و نسبت باطنی میں ترقی ہو نظر میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔

## مکتوب ۲۴

بنام حافظ عمر دراز خاں صاحب

بیٹے کو اپنے نسب سے عاق کرنے اور ورثہ

سے محروم رکھنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامداً ومصلياً ومسلماً -

محبت العلماء والفقراء خان عالیشان حافظ عمر دراز خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔  
فقیر حقیق لاشی عثمان عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنون معلوم کہ نوازش نامہ  
موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ بڑی مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دارین سے  
سرفراز فرمائے۔

جناب من بیٹے کو اپنے نسب سے عاق کرنا اور اس کو ورثہ سے محروم کر دینا  
شریعت کی رو سے ناجائز ہے۔ عدم جواز کی روایت مشکوٰۃ المصابیح باب المعانی رابع ثالث  
فصل اول، اسی طرح پر بعینہ اعرابی کا قصہ لکھا ہوا ہے۔ اعرابی نے حضور پیغمبر خدا صلی  
اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور حضور ﷺ نے جواب دیا، مرقات شرح مشکوٰۃ ملا علی  
قاری نے اسی حدیث کے تحت میں لکھا ہے۔

(فائدة الحديث) المنع من نفی الولد بمجرد الامارات

الضعيفه بل لا بد من تحقیق و ظهور دلیل قوی الی اخره  
یعنی بیٹے کو اپنے نسب سے محض علامات ضعیفہ کے ذریعہ نفی کرنا  
منع ہے۔ بلکہ تحقیق کرنا اور دلیل قوی کا ملنا ضروری ہے۔ فقط  
والسلام۔



مکتوب ۲۵

بنام مولوی حسین علی صاحب

ذکر و اذکار و عبادات ماثورہ سے

اصلی مقصد کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

جناب فیض مآب حضرت مولوی حسین علی صاحب اوصلك اللہ تعالیٰ اقصیٰ

المراتب۔

فقیر حقیر لاشی عثمان غنی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات معلوم ہو کہ مسرت نامہ جس میں ہاٹنی حالت کے متعلق تحریر کیا تھا موصول ہو کر بے حد راحت و مسرت کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیران کبار علیہم الرضوان والرحمۃ کے فیوضات و برکات سے سرفراز فرمائے۔ آمین بحرۃ المرسلین۔

جناب من ذکر و اذکار و عبادات ماثورہ سے اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل و خوار اور منعم حقیقی جل شانہ کو صاحب نعمت و جاہ و جلال جانے۔ فقیر جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اسی قسم کے بخار میں جیسا کہ موسم گرمی میں چڑھا تھا مبتلا ہو گیا۔ بس دو ہی کلموں پر اکتفا فرمائیے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے!

أَلَا اللّٰهُ الدِّیْنُ الخَالِصُ

بیشک خالص دین اللہ ہی کا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

اس روز تمہارے مال اور تمہاری اولاد نجات کے لئے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔

اور ایک جگہ اور فرمایا ہے!

وَأذْكُرِ سَمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝

اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔

فقراء نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی شرح میں رسالے اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اصلی مقصد مختصر یہ ہے کہ عبادت کا دار و مدار قلب کی رغبت و محبت پر ہے۔ یعنی عبادت رغبت سے کرے اور دل میں محبت رکھے۔ چنانچہ حدیث شریف سے واضح ہے۔

ارحني يا بلال وقرّة عيني في الصلوة

میاں باراں کو ضرور اپنے حلقہ میں آنے کی اجازت دیں اور اپنی توجہ سے ان کو فیضیاب کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہاں وہ دو لطیفے کافی ہیں۔ ہمیشہ ان پر بہتر ہزار ذکر اسم ذات کرتے رہیں۔

(جناب حضرت قبلہ) محمد سراج صاحب کو خرقہ خلافت دیئے ہوئے چند روز ہوئے ہیں اور حلقہ کرانے کی اجازت بھی دیدی گئی ہے۔ چنانچہ جن دنوں میں فقیر پر امراض کا ہجوم ہوتا ہے تو سراج الدین صاحب ختم خواجگان کے بعد حلقہ کراتے ہیں۔ فقیر نے سید صاحب مدوح کو روانگی سے چند روز پیشتر کہا ہے کہ فی الحال آپ کا معاملہ ولایت علیا تک پہنچا ہے جو نصف سلوک ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ اور کچھ

نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ تک اذن و اذکار و مراقبات کو برابر کرتے رہیں۔ اس کے بعد اگر زندگی باقی رہی تو دیکھا جائے گا۔

اب بھی اگر حضرت لعل شاہ صاحب کے مُریدوں میں سے کوئی صاحب کمالات و حقائق آپ کے پاس آئے تو ان کو توجہ دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اثر ہوگا۔ مرض کی زیادتی کی وجہ سے محض اتنا ہی کچھ لکھ سکا ہوں زیادہ لکھنے سے معذور ہوں، مصاف فرمائیں۔

فقط والسلام مع الاکرام،



## حلال و حرام

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جاہلیت والے بہت سی چیزیں کھالیا کرتے تھے اور بہت سی چیزیں گھن کرتے ہوئے چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو بھیجا، کتاب اُتاری، حلال کو حلال ٹھرایا اور حرام کو حرام قرار دیا، پس جو اُس نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو اُس نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔“ (ابوداؤد)



## مکتوب ۲۶

## بنام حضرت لعل شاہ صاحب

عمر کے آخری دنوں میں خانقاہ شریف کے کاموں اور مختلف امراض کی وجہ سے حضرت صاحب عدیم الفرصت رہتے تھے۔ اس لئے دوستوں کے خطوط کے جوابات سید اکبر علی صاحب لکھ کر حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ آپ ایک نظر ڈال لیں۔ آپ حسب ضرورت ان خطوط میں اپنے دست مبارک سے نصیحت آمیز عبارت کا اضافہ فرما دیتے تھے جو قارئین کے لئے پیش خدمت ہیں۔ (مترجم)

جناب حضرت لعل شاہ صاحب سکنہ دندہ شاہ بلاول قدس سرہ العزیز، فیاض من جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو پہنچتا ہے پس اسی میں بہتری ہے یعنی مرضی مولا ازہمہ اولیٰ۔ ہر کام میں صبر و تحمل سے کام لیں۔

الحمد لله على كل حال و نعوذ بالله من حال اهل النار.  
ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخیوں کے حالات سے محفوظ رکھے۔

فقیر و آنجناب فیض مآب کا آخری وقت ہے۔ ہر طرف سے حوادث زمانہ نے زور پکڑ لیا ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کرتے ہوئے ہر حال میں اس کی یاد کریں۔ یہاں تک کہ ایک لمحہ بھی غفلت نہ آنے پائے۔ کہہ دیجئے اللہ بس باقی عبث و ہوس۔ اللہ ہی کے ذکر پاک میں ہر سانس کو صرف کرنا چاہئے۔

## مکتوب ۲۷

## بنام ملا محمد رسول آخوندزادہ صاحب لٹون

آپ نے جو کچھ تنگ کے باشندوں کے متعلق تحریر فرمایا ہے تو جناب من  
عرض یہ ہے کہ اس ساری دنیا میں تنگی ہی تنگی ہے۔ یہاں اس کے سوا اور کیا رکھا ہے۔  
دُنیا کی فراخی کا انحصار دل کی فراخی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نوز من ربہ  
”خداوند تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیا تو اس کا  
سینہ رب کے نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے۔“

شرح صدر کا یہ مطلب ہے کہ جب دل ماسوا اللہ سے تعلق قطع کر لیتا ہے تو  
دنیا کا آرام و آسائش اور درد و کلفت آپس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت  
میں دنیا کی جملہ کلفتیں و زحمتیں راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مفسرین، محققین اور  
صوفیوں کے مذاق کے مطابق شرح صدر کا مطلب غیر اللہ سے قطع تعلق کر لینا ہے۔  
پس صوفی کو چاہئے کہ وہ تنہائی میں دل سے غور کرے کہ اس دُنیا میں وہ کس لئے آیا  
ہے۔ اگر دل میں کسی قسم کے مال و جاہ کی خواہش نہیں ہے بلکہ محض اللہ سے امید لگائے  
ہوئے ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ ہاں دنیاوی مکر و فریب سے  
ڈرتا رہے کیونکہ شیطان لعین اور نفس امارہ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ انسان جہاں کہیں  
بھی ہو اللہ کی یاد کرتا رہے۔ یہاں تو چند دن رہنا ہے اس کے بعد اپنے اصل وطن کو لوٹنا  
ہے۔ جس کے پاس سفر آخرت کا زادراہ نہیں ہے تو اس کو حیرانی و پریشانی کا منہ دیکھنا  
پڑے گا۔

بس مجھے تو آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا رنگین ہے اور آپ کی حالت  
ایک بچے کی سی ہے۔ خبردار اس کے نقش و نگار پر فریفتہ نہ ہو جانا۔

مکتوب ۲۸

## بنام قاضی عبدالرسول صاحب انگلی قوم کچی

جناب من اپنے اعمال میں تو کوتاہی ہی کوتاہی ہے۔ ان مقامات میں سالک سے جو بھی کوئی قول، فعل اور عمل صادر ہوتا ہے وہ ان کو قابل قبول تصور نہیں کرتا بلکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل سمجھتا ہے۔ پس سالک کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر، عبادات و طاعات میں گزارے اور اپنے تمام ظاہری و باطنی کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اس قسم کی باریکیاں بالمشافہ گفتگو میں سمجھائی جاسکتی ہیں کیا کیا جائے زیادہ فاصلہ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ چونکہ خدا نے جد کر دیا اس لئے بے بس ہوں۔ ملنا میری طاقت سے باہر ہے۔ مولانا اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں!

فقر خواہی آل بہ صحبت قائم است

نہ زباں درکار آید نہ زدست

یعنی فقر کا دار و مدار صحبت پر ہے، اگر تو فقر چاہتا ہے تو صحبت

اختیار کر۔ اس معاملے میں زبان اور ہاتھ سے کام نہیں بنتا۔

آپ جہاں بھی ہوں خدا کے ہو کر رہیں۔ جناب شمس الدین حبیب اللہ مرزا

جانجاناں صاحب قدسنا اللہ تعالیٰ باسرار ہم الاقدس و افاض علینا فیوضاتہ و برکاتہ فرماتے ہیں!

”جب سالک کی سیر کمالات تک پہنچتی ہے تو مجھے تشویش لاحق ہو

جاتی ہے کہ کہیں سالک طریقے کو نہ چھوڑ بیٹھے۔“

داستانِ عشق کی کوئی حد نہیں۔ اتنا ہی لکھنے پایا تھا کہ قلم ٹوٹ گیا۔ دعا ہے کہ

اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔



مکتوب ۲۹

بنام سید یوسف شاہ صاحب

سکنہ شہر وزیر آباد

اے عزیز مقام ولایت صغریٰ میں ذوق و شوق اور بڑے بڑے حالات ابتدا میں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ ظلال سے بلند مقامات پر پہنچتا ہے تو تمام حالات سابقہ گرد و غبار کی مانند اڑ جاتے ہیں اور ذوق و شوق کی بجائے بے لذتی اور بے لطفی پیش آتی ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل

الحزن

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر اور غمگین رہا کرتے تھے۔ اس لئے آپ اس بے لذتی اور بے لطفی کے باعث کسی قسم کا کوئی ملال نہ کریں۔ کیا کروں آپ کے رہنے کی جگہ مجھ سے دور ہے دوسرے یہ کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ فقیر اکثر بیمار ملتا ہے سلوک مجددیہ کے کسب کے لئے حضرات مجددیہ علیہم الرضوان کی کتابوں کا مطالعہ اس راہ میں ضروری ہے۔ داستان عشق کی کوئی انتہا نہیں۔

والسلام



## مکتوب ۳۰

## بنام مولوی محمد نور الحق صاحب شاہ پوری

آپ کا نوازش نامہ مشتمل بر قصیدہ مدح موصول ہوا۔ پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی، خوشی آپ کے اشتیاق پر ہوئی اور رنج اس لئے کہ آپ نے میری تعریف کرنے میں جو ایک بے سود اور ممنوع امر ہے اپنا وقت ضائع کیا اور مدح بھی کی ایسے کی جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ تعریف کرنے والے کو بھی اس قسم کی جھوٹی مدح سے نقصان پہنچتا ہے اور جس کی تعریف کی جائے اس کو بھی۔ کیونکہ اپنی تعریف سے اس کا نفس خوش ہوتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تعریف کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے۔

## قطعت عنق اخیک

کسی نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی تو گویا اس نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ پس آپ کو چاہئے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے حبیب پاک سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنا وقت صرف کریں تاکہ آپ کو سعادت دارین اور دولت کو نین نصیب ہو۔ اپنے آپ کو ذکر و مراقبہ میں سرگرم رکھیں۔



## مکتوب ۳۱

بنام حقداد خاں صاحب ترین

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

فقیر کی طرف سے مطمئن رہیں۔ یہ معنوی معاملہ رابطہ محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور ہو یا نہ ہو البتہ حضور کے لئے حضور حیات ہیں۔ پس رابطہ پر محکم رہیں کوئی کام آپ سے بن جائے یا کسی دوسرے سے لیکن اس کام کے بنانے والا حق تعالیٰ ہی کو جانیں کیونکہ قیامت کے روز ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس دنیا کو مجبوراً ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ پس عقلمند و دانا وہ شخص ہے کہ جس کا روز حساب کا معاملہ آسان ہے۔ زیادہ دعا۔



## مکتوب ۳۲

بنام حاجی حافظ محمد خان صاحب

سکنہ اڑی افانہ

اے عزیز عقل سے کام لو اور سنو کہ یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ کل قیامت کے روز سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ زبان کو ہمیشہ اس سبحانہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادیں بر لائے۔





## مکتوب ۳۳

بنام شاہ نواز خاں صاحب

براخیل سکنہ کلاچی گنڈہ پوران

دنیا کے پیدا کرنے کا اصلی مقصد اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ

سب بے سود بے کار۔



## مکتوب ۳۴

بنام منظور علی خان صاحب

بوڈھانسوی قوم راجپوت

مولوی محمود شیرازی کو خوش رکھنا فقیر کی خوشی کا باعث ہے۔ کسی خدا پرست درویش کی خدمت و اعانت کرنا دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ حتی الامکان دن رات ان کے حلقہ میں شامل ہو کر نسبت حاصل کریں۔ ورنہ اتنی بڑی نعمت کا پھر ہاتھ لگنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس کی قدر کریں۔ فقط



## مکتوب ۳۵

## بنام لام محی الدین صاحب

## سکنہ ماچھیوال ضلع جھنگ

دل سے خطرات و وساوس شیطانی کا دفع کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن اللہ والوں کی توجہ سے یہ سب خطرات دفع ہو جاتے ہیں۔ عقلمند کے لئے اشارہ کافی ہے۔ فقیر نے بالمشافہ عرض کیا تھا کہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے مولوی محمود شیرازی صاحب کی خدمت دل سے کریں اور علم ظاہری کو اس کا ایک وسیلہ تصور کریں۔ اس سے زیادہ فقیر اور کچھ نہیں جانتا۔ فقیر دعا گو ہے۔



## اپنے اوپر خود سختی کرنا

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان پاؤں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”اسے کیا ہو گیا ہے؟“ لوگوں نے جواب دیا: اس نے نذر مانی ہے کہ بیت اللہ کا سفر پیدل کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔“ اور اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرے۔“

مکتوب ۳۶

بہ مولوی محمد عیسیٰ خان صاحب ولد

حاجی قلندر خان صاحب

پتی خیل گنڈہ پور رئیس مڈی

عرصہ دو ماہ سے فقیر مرض بخار و اسہال میں مبتلا ہے۔ افسوس ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے سے محروم ہوں۔ حضرات گرامی کے مزارات پر حاضر ہو کر فقیر کے لئے (اللہ تعالیٰ سے) دعاء شفا کریں۔ مناسب وقت میں حضرت صاحبزادہ صاحب کو میری طرف سے تسلیمات و تکریمات عرض کر دیں۔



مکتوب ۳۷

بنام مولوی نور خاں چکڑالوی

مولوی نور خاں صاحب کو معلوم ہو کہ فقیر آپ سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی آپ سے راضی رہے۔ آپ کے باطنی شغل میں جو سستی و کاہلی آگئی ہے اس کے دفع کے لئے فقیر نے دعا کر دی ہے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ آمین۔





## مکتوب ۳۸

بنام عبدالغفور خان صاحب راجپوت

سکنہ کھیڑی (خیر ٹری) توابع ضلع رتھک

اپنے اوقات عزیزہ کو فرصت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے مامور رکھیں، کیونکہ دونوں جہان کی دولت و سعادت کار از مولیٰ کی یاد میں مضمر ہے۔ بس اصلی کام یہی ہے باقی سب فضول ہے۔



## مکتوب ۳۹

بنام میاں غلام رسول صاحب رنگریز

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

فقیر کی صحت کے متعلق یہ ہے کہ میاں عبدالرحمن صاحب کی روانگی کے وقت ضیق النفس اور ہلکے سے بخار میں مبتلا تھا۔ لیکن اب ضیق النفس کی بجائے جسم کے دائیں حصے پر فالج گر گیا ہے۔ اس کی وجہ سے درد سر اور بے چینی غالب ہے۔ بخار بدستور ہے۔ شافی حقیقی کی درگاہ میں شفا کے لئے دعا کریں۔ فقط

زیادہ دعا!

مکتوب ۴۰

بنام سید سردار علی شاہ صاحب

ولد سید بہاؤ الدین شاہ صاحب بخاری ملتانی

ان قیمتی اوقات کو جن کا کوئی بدل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت و ذکر و اذکار میں صرف کریں کیونکہ اسی میں دونوں جہانوں کی سعادت و دولت کا راز مضمّن ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ بے کار ہے۔ اپنے پیران کبار علیہم الرضوان و الرحمتہ کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں بر لائے۔ انشاء اللہ ضرور حاجت بر آئے گی۔ فقط



مکتوب ۴۱

بنام بنو انجان صاحب پنجابی

باہمی ملاقات ہونے تک شب و روز میں با وضو ہو کر پانچ سو مرتبہ درود شریف کا در در رکھیں۔ عصر کی نماز کے بعد اور صبح صادق سے پہلے نہایت عاجزی سے سو ۱۰۰ مرتبہ استغفار پڑھیں۔ امید قوی ہے انشاء اللہ یہ ورد آپ کی حاجت روائی میں مفید ثابت ہوگا۔



## مکتوب ۴۲

بنام غلام حیدر خاں صاحب

مقیم ڈیرہ اسماعیل خاں

اس سے پیشتر فقیر نے آپ کو ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ پڑھنے کے لئے تاکید فرمائی تھی۔ معلوم نہیں آپ اس کا باقاعدہ ورد کر رہے ہیں یا اس کو ترک کر دیا ہے۔ اس ورد کو صدق دل کے ساتھ بلا ناغہ پانچس و مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔ اس کا ثواب جناب محبوب سبحانی غوث صدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچا کر اپنے مقصد کے لئے ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت جل شانہ میں دعا مانگیں۔ اُمید کامل ہے کہ انشاء اللہ آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا۔



## مکتوب ۴۳

بنام میاں محمد فاضل صاحب قوم اوان

سکنہ مکھڑراولپنڈی

جناب مستورہ محترمہ حضرت بی بی صاحبہ اور آپ کے خدام کو بہت بہت دعائیں۔ یہ فقیر آپ سب کے لئے ہمیشہ دعا گو رہتا ہے، فقیر کے خاتمہ بالخیر کے لئے بھی دعا فرمائیں۔ مجی سرور خاں صاحب کو بھی میری طرف سے تسلیمات و دعوات عرض کر دیں۔



مکتوب ۴۴

## بنام جناب میر اصاحب قلندر

## پشین علاقہ بلوچستان

نوٹ:- ایک دفعہ حالت مرض میں میر اصاحب قلندر کا ایک خط حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ نے یہ اشعار پشتو زبان کے درد بھرے الفاظ میں لکھ کر خط کے جواب میں روانہ فرمائے۔

افغانی سلام درانغائی ته رانغلی

آپ کا افغانی سلام پہنچا لیکن آپ نہیں پہنچے۔

فائدہ نہ کی بی دیدن سلامونہ

ان تسلیمات کا بغیر دیکھے کیا فائدہ یعنی جب تک نہیں آئیں گے کوئی فائدہ

نہیں۔

ناجوڑ پڑوت فقیر حقیر پہ دلستر دی

فقیر حقیر بستر پر مریض پڑا ہوا ہے۔

داخل سپارہ کوی ہمیش تاخونہ

موت کے سوار ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔

بیا بہ وکی ته ارمان اے قلندرہ

اے قلندر جب مجلس کے فائدے نصیب نہ ہوں گے۔

مندہ بہ نہ کی فوائد و مجلسونہ

تو پھر ارمان و حسرت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

وقضا سپار وچہ تاخت پہ ممکن وک

پس حاضر غائب مروڑارنگ دینہ  
یعنی جب اجل کے سوار اپنی ممکن دوڑ دوڑیں گے تو اس وقت مجھے حاضر اور  
غائب دونوں برابر دیکھیں گے۔

عثمان خوار زار پروت بہ میدان دے  
وقضا سپارہ زیناں پہ آسوڑ دینہ  
یعنی عثمان خوار زار بستر پر پڑا ہوا ہے اور اجل کے سوار اپنے گھوڑوں پر زین  
رکھ رہے ہیں۔

بی اجلہ مرکائی نشہ تماشہ کہ  
پہ کارہ مشغول اوسہ عزیزہ  
یعنی بے موت کے مر رہا ہوں، تماشہ دیکھو لیکن اپنے کام یعنی یاد مولا میں  
لگے رہو اس میں کوئی غم نہیں۔

خطرہ مہ راوڑہ پہ زڑہ کنہر اے عزیزہ  
وفقیر حال حر ہمیش و غسی وینہ  
میری بات غور سے سنو وہ یہ کہ دل میں کوئی خطرہ نہ آنے دو۔ اے دوست  
فقیر کی حالت تو ہر وقت ایسی ہی رہتی ہے۔

سوال جواب وزائرین و واردین  
پہ چل جان سرہ فقیر عثمان کوینہ  
یہ فقیر عثمان ہمیشہ زائرین اور واردین کے سوال و جواب دیتا رہتا ہے۔  
درویشاں اوز نان واڑہ سرہ واری  
دعثمان مرض خفیف دجوڑ یہ بنینہ  
تمام عورتیں اور درویش سب یہ کہتے ہیں کہ عثمان کا مرض خفیف ہے صحت  
یاب ہو جائے گا۔



مکتوب ۴۵

بنام قاضی محمد امیر بخش صاحب قریشی

سکنہ موضع احمد پور سیالاں تحصیل شور کوٹ ضلع جھنگ

کار خیر کے متعلق آپ نے جو فقیر سے دریافت کیا ہے اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ فقیر کو اس قسم کے معاملات کا تجربہ نہیں۔ لیکن آپ جو کام بھی شروع کریں اس میں فقیر کو دعا گو تصور کریں۔ اپنے بزرگان دین علیہم الرضوان کے فرمان کے پیش نظر فقیر نے کسی دنیا دار سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ شریعت کی رو سے آنے جانے والے کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ فقط



مکتوب ۴۶

بنام سید پیر شاہ صاحب

سکنہ داں کیلانووالی توابع ضلع شاہ پور

جب تک باہمی ملاقات نہ ہو اپنے اوقات عزیزہ جن کا کوئی بدل نہیں مولیٰ حقیقی جل شانہ کی یاد میں گزاریں۔ بس اصلی مقصد یہی ہے باقی سب فضول ہے۔





مکتوب ۴۷

بنام حضرت لعل شاہ صاحب

سکنہ دندہ شاہ بلاول صاحب قدس سرہ العزیز

بخار کی شدت کی وجہ سے کچھ نہیں لکھ سکتا۔ بس اتنا لکھنا کافی ہے کہ مولیٰ کی

مرضی سب سے اولیٰ ہے۔



مکتوب ۴۸

بنام سید گل صاحب درویش

خانقاہ شریف سکنہ خوست توابع خراسان

بعد سلام مسنون واضح ہو کہ دینی علوم حاصل کرنے سے بہتر اور کوئی کام

نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ نماز پنج گانہ کو مستحب

وقت میں جیسا کہ فقہانے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ لہو و لعب

کے کاموں سے پرہیز کریں اور فقیر کی طرف سے مطمئن رہیں۔



## مکتوب ۴۹

بنام مولوی مہر محمد صاحب

سکنہ شاہ بلاول توابع ضلع شاہ پور

جناب کا ایک رقعہ موصول ہوا۔ اس کا جواب لکھ کر روانہ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ کا دست خط کسی نے دیا ہے۔ تعزیت نامہ لکھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام اموات کو اپنی رحمت و بخشش کے سمندر سے سیراب کر دے۔ اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

اے عزیز آپ کو چاہئے کہ اپنے قیمتی اوقات کو جن کا کوئی نعم البدل نہیں مولیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں صرف کریں۔ اصل کام یہی ہے، باقی سب بے سود، آپ کے مکانات منہدم ہونے کی خبر پا کر رنجیدہ ہوا۔ لیکن بندہ کو چاہئے کہ راضی برضا رہے۔ وہ اپنے بندوں کے لئے جو کچھ بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت کے بدلے میں بے حساب ثواب عطا فرمائے۔

آمین!



## مکتوب ۵۰

بنام مولوی محمد عظیم صاحب

چناروڑ حال سکنہ کلاچی گنڈہ پوران

کتابوں کی جلد فقیر کو بہت پسند آئی۔ مطمئن رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کی دلی

تمنائیں بر لائے۔ آمین۔



### ہمت نہ ہارنا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو قوی مومن، ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو (یوں) مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، لیکن (یہ بات) کہو کہ ”اللہ نے اندازہ کیا، جو چاہا اُس نے کر ڈالا۔ اس لئے کہ ”کو“ یعنی ”اگر“ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“



## مکتوب ۵۱

## بنام جناب محمود شیرازی صاحب

## سکنہ شیراز توابع ایران

فقیر نے دو عریضے اپنی خیریت کے متعلق ارسال فرمائے تھے۔ امید ہے کہ مل گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچے ہوں۔

فقیر پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد میں مستحبہ اوقات میں ادا کرتا ہے۔ اب کوئی دو روز سے دوران سر کی شکایت نہیں۔ لیکن کمزوری باقی ہے۔ اس جگہ ہر طرح سے خیریت ہے تسلی رکھیں۔ اپنے کام یعنی یاد مولیٰ میں ہمہ تن مصروف رہیں۔ یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ اب توجوانی ہے پھر ضعیفی میں کچھ نہ ہو سکے گا۔ جو خبر آپ نے تار برقی کے ذریعہ پہنچائی تھی اس کی وجہ سے بڑی پریشانی اٹھانا پڑی، کیونکہ یہاں پرائگریزی جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ دعا میں مشغول ہو گیا۔ صبر کر کے دل میں یہ تصور کر لیا۔

حلہ م ستادہ لویہ خدایہ

زیادہ طاقت و غمونہ لرم خواریم

چہ وفا صبر آیت نازل شی

غربت تر عاژہ کرۂ صبر تعویذونہ

باتف لغیب آواز دو کہ

سوالہ خدایا ہمہ ہیج دی ہیج کثرہ

یعنی اے خدا مجھے تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ میں خوار ہوں۔ زیادہ غموں کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب تو نے فاصبر کی آیت نازل کی تو مجھ غریب نے اپنے گلے میں صبر کے تعویذ لٹکائے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی اللہ بس باقی ہو س۔ خدا کے سوا سب کچھ ہیج ہے۔

## مکتوب ۵۲

بنام محمد زکریا صاحب ولد مولوی صالح

محمد صاحب مرحوم واعظ ڈیرہ اسماعیل خاں

دن رات میں کسی وقت یہ درود شریف ہزار بار بلا ناغہ پڑھیں۔

اللہم صل علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد افضل

صلوتک بعد معلوماتک و بارک وسلم علیہ

انشاء اللہ آپ کو تمام دینی و دنیاوی کام میں فائدہ پہنچے گا۔ زیادہ دعا۔



## مکتوب ۵۳

بنام مولوی محمد نور الحق شاہ پوری

آپ کے پردہ نشینوں کو دیرینہ مکان سے باہر نکلنے کی خبر پڑھ کر رنج پہنچا۔  
کیا لکھا جائے۔ بس یہی دعا ہے کہ خداوند جو کہ کافی المہمات ہے، آپ کے تمام خانگی  
امور کو غیب سے سرانجام فرمائے۔

وما اصابک من مصیبة الا باذن اللہ

یعنی اے انسان تجھ کو جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ کار ساز حقیقی کو شش ضائع نہ کرے گا۔



## بنام حاجی عبدالکریم صاحب قوم اتر

### سکنہ گرہ نورنگ

تہجد کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔

سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر  
اللہ ربی وتوب الیہ.

اس کے بعد حضرت قبلہ وکعبہ کے وسیلے سے درگاہ رب العزت میں اپنے

مقصد براری کے لئے دعا کریں۔ انشاء اللہ مقصد پورا ہو جائے گا۔

زیادہ والسلام

### تقدیر

ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جھاڑ پھونک کا ہمارے ہاں رواج ہے، دوا  
دارو اور علاج معالجہ بھی ہوتا ہے اور دشمن کا حملہ ہو تو ڈھال سے بچاؤ  
بھی کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کو پھیر  
سکتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔“



## مکتوب ۵۵

بنام مولوی نور خاں صاحب چکڑالوی قوم اووان

## برائے دفع جادو و سحر

اول و آخر درود شریف تین مرتبہ بعد میں سات سات مرتبہ الحمد شریف۔  
سات مرتبہ آیۃ الکرسی۔ سات سات بار چاروں قیل، خود پر اور مریضوں پر دم کریں۔  
انشاء اللہ تمام تکالیف رفع دفع ہو جائیں گی۔ نیز اسی طرح پڑھ کر اپنے تمام گھر اور صحن  
میں بھی دم کریں۔ یہ ورد جمیع امراض و اسقام کے لئے مفید ہے۔ اور اصحاب کہف کے  
اسمائے مبارک لکھ کر ہنڈیا میں بند کر کے کھیت کے ہر کونے میں دفنادیں۔ انشاء اللہ  
کھیت ہر قسم کے نقصان و ژالہ باری سے محفوظ رہے گا۔ باقی توشافی الامراض و دافع  
الآفات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔

دوسری عرض یہ ہے کہ صبح صادق اور عشا کے وقت شجرہ شریف اور  
قدرے قرآن شریف کی تلاوت کر کے اپنے پیران کبار کی ارواح مبارک کو بخش دیں  
اور بعد میں ان کے وسیلے سے اپنے مطلب کے لئے دعا مانگیں۔ مجرب ہے۔ سورہ فاتحہ  
کو تین وقت صبح و ظہر و عشا با وضو پڑھیں۔ اور اپنے اوپر دم کریں۔ نیز کسی کھانے کی چیز  
پر دم کر کے مویشیوں کو کھلائیں۔ فقیر پانچوں وقت آپ کے لئے دعا کرتا رہتا ہے۔

فقط والسلام



## مکتوب ۵۱

## بنام حافظ محمد خاں صاحب ترین

## سکنہ اڑی افاغنه

اے بھائی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ انسان کو گھبرانا نہیں چاہئے۔ دل کو مضبوط رکھ کر اپنے پیران کبار قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا ہم الاقدس کے وسیلے سے اپنی عزت و فتح مندی کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کارسز حقیقی ہے۔ اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں آپ کو بھٹلانا محال ہے۔



## مکتوب ۵۷

## بنام شیر دل خاں صاحب لاہوری

فقیر آپ کے لئے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے۔ کاغذ پر فقیر کا نام لکھیں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجیب الدعوات اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ ہر شخص کو اپنی قسمت کا ملتا ہے۔ حکیم مطلق کے ہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ اپنے اوقات عزیزہ کو کبھی کبھی توبہ و استغفار و عبادات سے معمور رکھیں۔ روز حساب سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ دنیا کا کام تو کسی نہ کسی طرح چلتا رہتا ہے مگر آخرت کا کام مشکل ہے۔ بس آخرت کی فکر کرنا چاہئے۔ باقی اس کے علاوہ بے سود ہے۔



## مکتوب ۵۸

بنام قاضی محمد امیر بخش صاحب قریشی

سکنہ احمد پور سیالان تحصیل شور کوٹ ضلع جھنگ

آپ نے باطنی سستی کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ سچ ہے غیر جنسوں کی صحبت سے صوفی کی باطنی حالت مکدر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی نے فرمایا ہے۔

”صحبتِ بد اہل، تباہ می کند و دیگ سیاہ، جامہ سیاہ می کند“

یعنی بروں کی صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور سیاہ دیگ کپڑوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ فقیر دعا کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو دنیوی و انفسی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔



## مکتوب ۵۹

بنام اللہ دار خاں صاحب محرر

جناب من اپنے اوقات عزیزہ کو جن کا کوئی نعم البدل نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر و فکر سے معمور رکھیں۔ پس مولیٰ حقیقی عزہ شانہ کی عبادت میں ہی دونوں جہان کی سعادت کا راز مضمر ہے۔ فقط





## مکتوب ۶۰

بنام بدرالدین صاحب درزی

سکنہ قصبہ چونڈہ باجوہ توابع ضلع سیالکوٹ

اے عزیز آپ کو چاہئے کہ اپنے اوقات عزیزہ کو جو باقی نہیں رہیں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر فکر میں گزاریں۔ دونوں جہاں کی دولت اللہ جل شانہ کی یاد سے نصیب ہوتی ہے۔



## مکتوب ۶۱

بنام ملا بادشاہ شادریزی قوم ناصر

صبح کی نماز میں فجر کی سنت و فرض کے درمیان سات مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ناغہ پڑھ کر سات روز تک مریض پر دم کریں اور اس کا ثواب حضرت قبلہ و کعبہ نور اللہ مرقدہ شریف کی روح مبارک کو پہنچائیں اور اپنے بھائی کی شفاء کلی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔



## مکتوب ۶۲

بنام میاں احمد و غلام محمد

سکنہ موضع وہیر ضلع شاہ پور تحصیل خوشاب

اے عزیز اس چند روزہ زندگی کو غنیمت جانیں اور معبود حقیقی کی یاد میں ہمہ تن مصروف رہیں۔ ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرنے نہ پائے۔ پس اسی میں دونوں جہان کی دولت کار از مضمحل ہے۔



## مکتوب ۶۳

بنام محمد مہربان خان صاحب ولد شہاب الدین خان صاحب

پلج سکنہ پلیمانہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

ہندوستانی دوستوں کے رقعات سے معلوم ہوا ہے کہ ماہ ذی الحج کی گیارہ تاریخ سے منی میں ایسی وبا پھوٹی کہ چھ سات ہفتوں میں چالیس ہزار حاجی چل بے۔ اس افسوسناک خبر کی وجہ سے شہاب الدین خان کی خیریت کا انتظار دامن گیر ہے۔



مکتوب ۶۴

بنام حکیم میاں اللہ بخش صاحب اور ان

کے بیٹے میاں غلام نبی صاحب حکیم

سکنہ مورانی علاقہ بکھر توابع ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں

اے عزیز اپنے اوقات عزیزہ کو جن کا کوئی نعم البدل نہیں، اللہ جل شانہ کی یاد میں گزاریں۔ یہاں تک کہ ایک لحظہ بھی غفلت میں گزرنے نہ پائے۔ اللہ ہی کی عبادت میں دونوں جہان کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ فقیر کے حق میں بھی خاتمہ بالخیر کے لئے دعا فرمائیں۔



### پانچ سوالات

حضرت ابن مسعودؓ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (قیامت کے دن) انسان کے قدم (اپنی جگہ سے) ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اُس سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ۱۔ عمر کن کاموں میں گنوائی؟ ۲۔ جوانی کی توانائیاں کہاں صرف ہوئیں؟ ۳۔ مال کہاں سے کمایا؟ ۴۔ کہاں خرچ کیا؟ ۵۔ جو علم اُسے حاصل ہوا اُس پر اُس نے کہاں تک عمل کیا؟ (ترمذی)



## مکتوب ۶۵

بنام سید فضل حسین شاہ صاحب

سکنہ پیر بھائی علاقہ میانوالی توابع ضلع بنوں

اے بھائی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اس کو معبود حقیقی کی معرفت نصیب ہو جائے۔ پس ان دونوں اقوال کا مقصد ایک ہی ہے۔ آپ کے لئے لازم ہے کہ اپنے اوقات عزیزہ کو جن کا کوئی بدل نہیں، غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر و اذکار میں مصروف رکھیں۔ تاریک راتوں میں کثرت سے توبہ استغفار کریں۔

عیش و عشرت و خواب راحت اور لذیذ کھانوں کا وقت حقیقت میں بعد مرنے کے آئے گا۔ آپ کو اپنے ان تمام اعمال پر جو اللہ کی یاد کے بغیر سرزد ہوئے ہیں نادام ہونا چاہئے۔ بس عبادت و استغفار کرتے رہیں۔ اصل کام تو یہی ہے باقی سب فضول۔ فقیر کے خاتمہ بالخیر کے لئے دعا فرماتے رہیں۔



## مکتوب ۶۱

## بنام ملا نسیم گل آخوند بنوچی

## سکنہ موضع نورڑ توابع ضلع بنوں

دوبارہ تحریر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے خواب اور اس طرح کے حالات سے سالک کی استعداد کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن اس قسم کے خوابوت پر نازاں نہیں ہونا چاہئے کیونکہ شیطان لعین انسان کا سخت دشمن ہے، جس نے بہت سے سالکوں کو اس طرح کے حالات سے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہیں اور تکبر نہ کریں۔ ملاقات کے وقت اس کے متعلق مزید وضاحت کی جائے گی۔ فقط والسلام



## مسافر کی سی زندگی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑتے ہوئے فرمایا: ”تم دنیا میں اس طرح رہو، گویا تم مسافر ہو یا رہ گزر۔“ ابن عمرؓ فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کے زمانے میں بیماری کے وقت کے لئے (نیکیوں کا توشہ) لے لو، اور زندگی میں موت کے لئے (عمل کا سرمایہ) فراہم کر لو۔“ (بخاری)

## مکتوب ۶۷

بنام محمد امین صاحب پراچہ بانی

سکنہ شہر اٹک و ملاچی ٹولہ توابع ضلع راولپنڈی

جب تک آپ حیات ہیں اپنے کام میں لگے رہیں یعنی اپنے قیمتی اوقات کو اس کی یاد سے معمور رکھیں۔ یہاں تک کہ ایک لحظہ اور ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت نہ آنے پائے۔ اصل مقصد یہی ہے باقی سب فضول۔

واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا

”اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔“

بس کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے ماسوائے عبث و ہوس۔

فانقطع عليه النفس۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است

پاکی دل ز ذکر رحمن است

یعنی جب تک جان میں جان ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو، یاد رکھو اللہ

کے ذکر سے ہی دل پاک ہوتا ہے۔





## بنام غیض علی شاہ صاحب

سکنہ کھوتلہ علاقہ خوشاب توابع ضلع شاہ پور

آپ کو چاہئے کہ فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ انشاء اللہ اجر عظیم سے خالی نہ رہو گے۔ زندگی کا خلاصہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا رہے اور اس کے علاوہ سب فضول ہے۔



### جامع ترین نصیحت

ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے کہا مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر لفظوں میں فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نماز میں کھڑا ہو تو اُس شخص کی سی نماز پڑھ جو رخصت کیا جا رہا ہے، اور ایسی بات منہ سے نہ نکال جس کے بارے میں کل عذر پیش کرنا پڑے اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اُس سے قطعی طور پر مایوس ہو جا۔“

(مشکوٰۃ)

مکتوب ۶۹

بنام صاحبزادہ محمد گل صاحب

خلف فقیر مہتر موسیٰ صاحب مرحوم

خليفة خواجہ دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

قوم یسین زئی سید حالاساکن پلیمانہ

(جہاں پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ شریف ہے)

آپ نے قوم صادیان کی بداعتقادی کے جو حالات تحریر کئے ہیں ان سے آگاہی ہوئی۔

جناب من ہر شخص کو قیامت کے روز اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، کیا انہوں نے خداوند کریم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے کہ!

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم

آج بروز قیامت ہر ایک اپنے کئے کی سزا پائے گا۔ آج کے روز

کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

یعنی انصاف سے کام لیا جائے گا۔ غیبت کرنا اور کسی پر بہتان باندھنے کی سزا

سے یہ لوگ واقف نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ

دکھائے اور آپ کو مخالفین کی دشمنی کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔



## مکتوب ۷۰

بنام ملا فقیر محمد صاحب خروٹی

اپنی تنگ دستی اور فراخ روزی کیلئے یہ ختم شریف

رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین ○

پانچ سو مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔ اس کا ثواب جناب مرشدی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو بخش کر ان کے ویلے سے اپنے مطلب بر آری کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ فقیر بھی آپ کے حق میں دعا کرتا ہے۔



## مکتوب ۷۱

بنام قائم دین صاحب پنجابی

فرصت کے وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل و جان سے مصروف رہیں۔ دونوں جہان کی دولت کارا اسی میں مضمر ہے۔ زندگی کا اصل مقصد مولیٰ کی یاد ہے باقی سب ہیچ۔





## مکتوب ۷۲

بنام سید پیر امیر شاہ صاحب

سنہ دان کیلانوالی توابع ضلع شاہ پور

اللہ تعالیٰ مکتوبات مقدسہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے فیوضات سے آپ کو سر فراز فرمائے اور آپ کو یہ خواب مبارک ہو۔ فرصت کے وقت کبھی کبھی ان کا مطالعہ کرتے رہا کریں۔



### خدا کی ڈھیل

عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ معصیت اور نافرمانی کے باوجود بندے کو اُس کی خواہش اور پسند کے مطابق دُنیا کی نعمتیں دے رہا ہے (تو سمجھ لو) کہ یہ (خدا کی طرف سے) ڈھیل ہے“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”جب وہ ان باتوں کو بھول گئے جن کی ان کو نصیحت کی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دئے، یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی نعمتوں میں مست اور مگن ہو گئے تو ہم نے اُن کو اچانک پکڑ لیا۔ پھر اچانک وہ مایوس نظر آتے ہیں۔“ (احمد)

## مکتوب ۷۳

بنام ملا عبدالحق آخوندزادہ صاحب

بریپال سکنہ شین غرتوابع ضلع راولپنڈی

فقیر کی یہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ باوجود بیماری کے خطوط کا جواب دیتا ہوں۔ اس سال فقیر اکثر و بیشتر مرض ضیق النفس اور پھوڑے پھنسیوں میں مبتلا رہا ہے۔ چونکہ یہ سب بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لئے اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔



## مکتوب ۷۴

بنام ملا خداداد قوم ساہی

سکنہ موضع چاہگان توابع ڈیرہ اسماعیل خاں

مرید کے لئے اخلاص اور رابطہ قلبی کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ بال بچوں والے ہیں اور آپ کی مالی حالت بھی کمزور ہے اس لئے بہ وقت ضرورت لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا کوئی نقصان دہ نہیں۔ ہاں حتی الوسع غیر شرعی کاموں سے دور بھاگیں۔ دعا ہے اللہ حقیقی جل شانہ دشمنوں کے شر و عداوت سے آپ کو محفوظ رکھے۔



## مکتوب ۷۵

## بنام متولی خاں صاحب پنجابی

آپ کو چاہئے کہ دنیا کی لہو و لعب اور لغویات سے کنارہ کشی کریں، اور دینی کاموں یعنی نماز روزہ میں استقامت کے ساتھ مشغول رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سب کاموں سے برتر و اولیٰ ہے۔ دونوں جہان کی سعادت کا انحصار اسی پر ہے۔ فقیر کو ہمیشہ دعا گو تصور کریں۔



## مکتوب ۷۶

## بنام جناب مولوی عبید اللہ صاحب

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

اے عزیز اس آخری عمر میں اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ نہ الجھائیں۔ مرد وہ ہے کہ اس قسم کی مصیبت کے باوجود اپنے قیمتی اوقات کو جن کا کوئی بدل نہیں یاد مولیٰ میں صرف کرے اور اپنے ہر فعل و قول میں شریعت مطہرہ کی اتباع کا خیال رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند کلمے ہی آپ کے لئے کافی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ طویل کلام آپ کو گراں گزرے۔ یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے کل سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مد نظر رکھیں۔

یا ایہا الذین امنوا امنوا،

اور دوسری جگہ ارشاد ہے!

اللہ الذین الخالص -

پس خالص دین اللہ ہی کا ہے۔ زیادہ دعا



## مکتوب ۷۷

بنام نواب غلام قاسم خان صاحب

کئی خیل والی ٹانک ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔  
شیعہ شیعہ فرقے سے قطعی اجتناب رکھیں۔



## مکتوب ۷۸

بنام ملا جان آخوندزادہ صاحب

قوم ہو تک سکنہ مرغہ ہو تک ملک خراسان

برخوردار عزیزم نور چشم محمد سراج الدین صاحب فارسی صرف، نحو، منطق تا  
قطبی شرح عقائد نسفی وغیرہ سے پورا پورا فارغ ہو چکا ہے اب علم فقہ میں کنز آخر  
کو تا کتاب الاجارہ پہنچا رکھا ہے۔ شرح کتاب الحج اور اصول فقہ میں نور الانوار باب قیاس  
تک پڑھ لی ہے۔ براہ مہربانی اس کے حق میں بہت بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو  
اپنے دلی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔



## مکتوب ۷۹

بنام محمد امتیاز علی خان صاحب راجپوت رئیس

سنجھل ضلع مراد آباد

اے عزیز اپنے قیمتی اوقات کو جن کا نعم البدل نہیں، اللہ جل شانہ کے ذکر و فکر سے معمور رکھیں، نیز اپنی بیچ وقتہ نماز کو مستحب اوقات میں جیسا کہ فقہانے اپنی کتابوں میں لکھا ہے باجماعت ادا کریں۔ حتی الامکان ایسی محفلوں اور مجلسوں سے جن میں خلاف شرع کام ہوتے ہوں پرہیز کریں۔ کیونکہ درویش کے لئے غیر جنس کی صحبت سم ناطل ہے۔ درویشوں کا شیوہ ہے کہ وہ لوگوں کی آمد و رفت سے گھبراتے ہیں کیونکہ اس سے حب جاہ اور ریاست کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ شریعت کے مطابق میل جول رکھیں۔

دادیم ترا از گنج مقصود نشاں

گرمانہ رسیدیم تو شاید برسی

فقیر کو دعا گوئی سے غافل تصور نہ کریں۔



## مکتوب ۸۰

## بنام صاحبزادہ ولی اللہ خان صاحب

خلف ملا امان اللہ آخوند صاحب

قوم لووین علاقہ سیابند ملک خراسان

(یہ حاجی دوست محمد صاحب کے خلیفہ تھے)

فقیر دو شوال سے بخار، کھانسی اور ضیق النفس میں تقریباً چالیس روز تک مبتلا رہا۔ سب کے سب فقیر کی زندگی سے ناامید ہو گئے تھے۔ اس وقت شانی حقیقی جل شانہ نے اتنی شفا عطا فرمادی ہے کہ اپنی فرض نماز بوقت کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہوں۔ طاقت بالکل نہیں رہی۔ بہت کمزور و نحیف ہو گیا ہوں۔ چونکہ آپ میرے مخلصوں اور محبوبوں میں سے ہیں اس لئے تحریر کر رہا ہوں کہ میرے خاتمہ بالخیر کے لئے دعا فرمائیں۔ یہ چند کلمات بڑی تکلیف سے لکھ سکا ہوں، اس جگہ کے احباب کو خصوصاً برادران حقیقی و سیاہ بندی کو میری طرف سے سلام مسنون و دعوات مشحونہ پہنچادیں۔

آپ صاحبزادے ہیں اور میری نظر میں آپ کی شان بلند ہے۔ آپ نے جو سلام بھیجنے کی تکلیف گوارا فرمائی میں بہت شرمندہ ہوں، فقیر آپ کے لئے دعا گو

ہے۔





## مکتوب ۸۱

بنام محمد سرور خان صاحب

سکنہ مکھڈ ضلع راولپنڈی

آپ جہاں بھی رہیں خدا کے ہو کر رہیں۔ اس وقت فقیر پانچوں وقت کی نماز  
باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے۔ مطمئن رہیں۔



## مکتوب ۸۲

بنام مولوی سعد اللہ صاحب نبیرہ

جناب حقائق و معارف آگاہ حاجی غلام حسین صاحب مرحوم

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

آپ کے اقارب (رشتہ دار) آپ کے حق میں عقارب (بچھو) ثابت ہوئے  
ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ فقیر آپ کے لئے دُعا گو ہے۔



مکتوب ۸۳

بنام محمد نصیر خان صاحب بلوچ چنگوانی

چوٹی زیریں توابع ڈیرہ غازی خاں

منعم حقیقی فعال للمایرید

وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے۔

حق تعالیٰ جل شانہ ہی کی ذات مبارک ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ہوتا ہے۔ یاد مولیٰ میں لگے رہیں۔ انشاء اللہ محنت رائیگاں نہیں جائے گی۔



مکتوب ۸۴

بنام مولوی محمد عیسیٰ خان صاحب

ولد حاجی قلندر خان صاحب

پتی خیل گندہ پور ریمس مڈی

اے عزیز فقیر کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ فقیر آپ سے خوش ہے۔

خدا بھی آپ سے راضی ہو۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں۔ انسان کی پیدائش کی اصل غرض و غایت اللہ شانہ، کی معرفت حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ اور

کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ زیادہ دعا۔

## مکتوب ۸۵

بنام مولوی حاجی غلام حسین خان صاحب

پٹھان عیسیٰ خیل سکنہ شہر عیسیٰ خیل ضلع بنوں

اے عزیز فقیر کے لئے لازم ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خدا کا ہو کر رہے۔  
 قلب کی سلامتی کا دار و مدار ماسوائے اللہ کو چھوڑ کر دین متین کی ضروریات پر ہے۔ جس  
 جگہ بھی سلامتی قلب میسر ہو وہاں بلا دروغ جائیں اور جمعیت قلب حاصل کریں۔ ارشاد  
 باری تعالیٰ ہے کہ!

یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم  
 قیامت کے روز نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد مگر وہ شخص فلاح  
 پائے گا۔ جو سلامتی قلب کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر  
 ہوگا۔



### مومن کی مثال

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا: ”مومن اور ایمان کی مثال اُس گھوڑے کی ہے جو کھونٹے  
 سے بندھا ہوا ہے، گھومتا پھرتا ہے پھر اپنے کھونٹے کی طرف لوٹتا ہے۔  
 اسی طرح مومن سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایمان کی  
 طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا نیکو کار لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے احسان سے  
 مومنوں کو نوازو۔“ (بیہقی)



## مکتوب ۸۶

بنام جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت صاحبزادہ

مولانا مولوی خواجہ سراج الدین صاحب

مدظلہ و عمرہ ورشدہ

بڑے پیار و محبت کے بعد فقیر کی طرف سے عرض ہے کہ فقیر نے جو خط ارسال کیا تھا اسکا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ سخت انتظار ہے۔

احقر کا دل آپ کی طرف پڑا رہتا ہے۔ دوبارہ لکھ رہا ہوں۔

خاک شو خاک تا بروید گل

کہ بجز خاک نیست مظہر گل

یعنی اپنے آپ کو بالکل خاک کے مانند سمجھو تا کہ تمہاری خاک سے پھول

اُگیں۔ یاد رکھئے جہاں خاک نہیں وہاں پھول نہیں۔ اے میرے لختِ جگر صاحبزادگی کو بالائے طاق رکھ کر عاجزی و تواضع کا کلاہ سر پر پہنیں۔

کسبِ کمال کن کہ عزیزِ جہاں شوی

یعنی کوئی کمال حاصل کرو تا کہ دُنیا میں ہر دل عزیز ہو جاؤ۔ اپنے تمام حالات

سے مطلع کرو۔ زیادہ دعا۔



## مکتوب ۸۷

## بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

## سکنہ شیراز توابع ایران

الحمد للہ امراض کے باوجود پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ اکثر اوقات صبح کو ختم شریف کے بعد حلقہ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اے عزیز آپ کو بھی چاہئے کہ اپنے قیمتی اوقات کو یاد مولیٰ میں صرف کریں۔ یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ اب آپ کی جوانی کا عالم ہے اور آپ کو ہمت و طاقت نصیب ہے جب بڑھاپا آئے گا اور عمر گزر جائے گی تو اس وقت سوائے دلسوزی، افسوس اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

دادیم ترا از گنج مقصود نشان

گرمانر سیدیم تو شاید برسی



## ایذا پر صبر

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے بے تعلق رہتا ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔“ (ترمذی)

## مکتوب ۸۸

نام فرزند حاجی حافظ محمد خان صاحب ترین

سکنہ اڑی افاغنه توابع ضلع مظفر گڑھ

آپ سبق شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ!

اللهم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنى بطاعتک

پڑھا کریں۔ فقیر دعا کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مطالعے کو

وسیع کرے۔ آپ کے ذہن کو تیز کرے اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ کو علم حاصل

کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر کی طرف سے تسلی رکھیں۔



## مکتوب ۸۹

بنام بادشاہ شاد یزی قوم ناصر

الحمد شریف اور چاروں قل سات سات مرتبہ پڑھ کر خان محمد پر دم کریں،

انشاء اللہ صحت و عافیت نصیب ہوگی۔





مکتوب ۹۰

## بنام بادشاہ و محمد عمر خراسانی

## قوم توخی خدرزئی

اے عزیز دنیا کی تو یہ حالت ہے کہ صبح کو آجاتی ہے اور رات کو چلی جاتی ہے۔ عقلمند وہ ہے جس کے دل میں دین کا غم ہے نہ کہ دنیا کا۔ کیونکہ دنیا سے تو ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے۔ فقیر کو ہمیشہ دعا گو تصور کریں۔ دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔

فقیر نے جو اذکار آپ کو بتائے ہیں دن رات ان کا معمول رکھیں۔ حضرت قبلہ و کعبہ نور اللہ تعالیٰ مرقدہ الشریف کا ختم مبارک۔

رب لاتدرنی فردا و انت خیر الوارثین

صبح و شام پانچ سو مرتبہ با وضو بلا ناغہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف سو سو

مرتبہ،



## مسلمان کی تعریف

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں امن میں ہوں، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور مہاجر وہ ہے جو نافرمانی کی راہ ترک کر دے۔“ (مشکوٰۃ)

## مکتوب ۹۱

بنام ملا غلام صدیق آخوندزادہ صاحب

سکنہ موسیٰ زئی توابع ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں

سب کاموں میں مدد دینے والا اللہ جل شانہ ہے۔ غم کرنا اور بد دل ہونا بے

ہمتوں کا شیوہ ہے۔ زیادہ دعا و سلام۔



## مکتوب ۹۲

بنام مولوی محمد نور الحق صاحب شاہپوری

الحمد للہ فقیر نے مہلک امراض کی شدت سے نجات پالی ہے۔ لیکن ابھی تک

فرض نمازیں اپنے حجرہ ہی میں ادا کرتا ہوں۔ اس طرف سے مطمئن رہیں اور اپنے

اوقات عزیزہ کو جن کا کوئی نعم البدل نہیں مولیٰ کی یاد میں معمور رکھیں۔



مکتوب ۹۳

بنام محمد سر فراز خاں صاحب گنڈہ پور خلف

محمد نورنگ خاں صاحب مرحوم

رئیس کلاچی گنڈہ پور ان توابع ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

اے عزیز کسی کام کو پورا کرنے کا اختیار اس فقیر کو نہیں بلکہ کارساز حقیقی اللہ

جل شانہ ہی کی ذات پاک ہے۔ بندے کے پاس سوائے عاجزی کے اور کوئی چارہ نہیں۔



مکتوب ۹۴

بنام مولوی ہاشم علی صاحب

سکنہ موضع بگھار تحصیل کہوٹہ ضلع راولپنڈی

فقیر کو اس وقت سے اب تک کتابوں کی الماری دیکھنے کا موقع نہیں ملا، کتاب

مناقب احمدیہ کا مجھے خیال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے طبیعت اسی طرح

ٹھیک رہی جیسا کہ اس وقت ہے تو ضرور کتابوں کی الماری میں تلاش کروں گا۔ اگر وہ

کتاب مل گئی تو یقیناً ارسال خدمت کروں گا۔ مطمئن رہیں۔





## مکتوب ۹۵

بنام عفت پناہ بی بی صاحبہ ہمشیرہ پیر جی میاں مرم

سکنہ مکہڈ توابع ضلع راولپنڈی

اے عزیز عقل کے کان کھول کر سنو کہ بے عزتی یا بے حرمتی یا تو ظالموں کو  
پیش آتی ہے یا مظلوموں کو۔ حقیقت میں قابل عزت و احترام وہ شخص ہے جو اللہ اور اس  
کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ ظالم اور حد شرعی سے تجاوز  
کرنے والے کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ آپ اس قسم کے کاموں سے نہ گھبرائیں،  
روز حساب سے واسطہ پڑنا ہے۔ اس دن ہر ایک کو اپنے کئے کی جزا و سزا ملے گی۔ اپنے  
اصلی مقصد یعنی یاد مولیٰ میں دن رات سرگرم و کوشاں رہیں۔ عقل سے کام لیں، یہ چند  
کلے اپنے ہاتھ سے آپ کی تسلی کے لئے لکھ دیئے گئے ہیں۔

زیادہ والسلام



## مکتوب ۹۶

بنام حافظ علی محمد صاحب

ساکن جگوالہ توابع ضلع ملتان

بزرگان دین نے پانی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں اور  
سخت مجاہدے کئے ہیں۔ مثلاً چلے کھینچے ہیں اور شب بیداری میں اپنی عمریں گزاری ہیں۔  
ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ عوام اگر آپ کی تعریف کریں تو اس پر مغرور و  
نازاں ہرگز نہ ہوں۔ بس حق تو یہ ہے کہ باقی سب بے کار۔

مکتوب ۹۷

## بنام سید پیر امیر شاہ صاحب

سکنہ وان کیلانوالی توابع ضلع شاہ پور

اے عزیز آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ”حزب البحر پڑھنا حضرات نقشبندیہ کے معمولات میں سے ہے اگر آپ کی مرضی ہو تو مجھے بھی اس کے پڑھنے کی اجازت عطا فرمائیں۔“

آپ نے کہاں پڑھا ہے اور کس سے سنا ہے کہ حزب البحر کا پڑھنا طریقہ نقشبندیہ کے ارکان یا شرائط میں سے ہے۔ ہاں حزب البحر میں چونکہ دعائیں ہیں اس لئے اگر اس کو محض خدا کی خوشنودی کے لئے پڑھا جائے تو تزکیہ نفس و تفسیہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے پس ہر نماز کے بعد بلا ناغہ اس کا ورد رکھیں، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہر گز نہ پڑھیں۔

جب تک کہ زندگی باقی ہے اپنے قیمتی اوقات کو جن کا کوئی نعم البدل نہیں مولیٰ حقیقی جل شانہ کی یاد میں گزاریں۔ بس اصلی مقصد یہ ہے کہ باقی اس کے علاوہ سب فضول۔ فقیر کی آپ پر توجہ ہے اور ہمیشہ آپ کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے۔

والسلام



مکتوب ۹۸

## بنام روزی خاں صاحب ولد حیات خاں صاحب میاں خیل وڑو کے

اپنے تعلقات دنیوی کو پس پشت ڈال کر اپنے والدین کے حال احوال کی خبر  
لیں۔ بعد میں ان کی پاس خاطر دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں۔ فقط



مکتوب ۹۹

## بنام ملایار خاں صاحب برادر حقیقی مولوی نور خان صاحب سکنہ چکڑالہ توابع ضلع بنوں

نماز میں سستی دور کرنے کے لئے کثرت سے استغفار کریں۔ انشاء اللہ امید  
قوی ہے کہ سستی وغیرہ کے واسطے یہ ورد بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔





## مکتوب ۱۰۰

بنام غلام قادر صاحب خلف میاں عبدالرحمن صاحب

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

آپ کی دائرہ سے دامن کی طرف تبدیلی اور عہدے کی ترقی کے واسطے فقیر نے دعائیں کی ہیں اور کرتا رہتا ہوں۔ لیکن قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے۔ بہر حال اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یہ دار فانی دنیا قطعی بے وفا ہے۔ کبھی کبھی ضروری کاموں سے فرصت پا کر اپنے اوقات کو مولیٰ کی یاد سے معمور فرمائیں۔ کیونکہ اللہ کی یاد سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔



## مکتوب ۱۰۱

بنام شاہ نواز خان صاحب براخیل

سکنہ کلاچی گنڈہ پوران توابع ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں

ختم ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“

پڑھ کر حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل

سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگیں۔ انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔



## مکتوب ۱۰۲

بنام مولوی سید ابو محمد برکت علی شاہ صاحب

سکنہ علاو پور توابع ضلع جالندھر

یہاں سے رخصت ہونے کے بعد آپ نے ابھی تک کوئی خطر روانہ نہیں فرمایا۔ غالباً ذکر و اذکار کی مشغولیت مانع ہوئی ہے۔ خدا کرے اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہ حائل ہو۔ اپنے حالات سے باخبر رکھا کرو تاکہ محبت اور دلی تعلق میں زیادتی ہو جس کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔



## مکتوب ۱۰۳

بنام حاجی عبدالرشید علی خاں صاحب

رئیس تیوری توابع ضلع بلند شہر

فقیر گزشتہ سال کی طرح امراض میں مبتلا ہے۔ لیکن الحمد للہ پچھلے دنوں کے فالجے میں امراض میں کچھ تخفیف ہے۔ مطمئن رہیں۔



## مکتوب ۱۰۴

بنام ملا نسیم گل آخوندزادہ صاحب

قوم بنونچی سکنہ موضع نورڑ توابع ضلع بنوں

اس حالت اور اس عمر میں کم کھانا کوئی ضروری نہیں۔ درمیانہ روی کو پیش نظر رکھیں۔ ہاں زیادہ کھانے کے درپے نہ ہوں۔ اگر خداوند تعالیٰ نے کھانا کھانے کے لئے دیا ہے تو بقدر حاجت نوش فرمائیں۔ ہمیشہ یاد مولیٰ میں لگے رہیں۔ اس وقت آپ کا یہاں آنا معاف کیا جاتا ہے۔



## مکتوب ۱۰۵

بنام جناب حقائق آگاہ حضرت صاحبزادہ

مولانا مولوی سراج الدین صاحب مدظلہ و عمرہ ور شدہ

برخوردار سعادت اطوار اطال عمرہ مع علمہ و صلاحہ و فلاحہ بعد از دیدہ بوسہیا و تسلیمات معلوم ہو کہ اپنے کام میں پوری کوشش سے انہماک رہیں کیونکہ یہ وقت جمعیت کا وقت ہے فقیر آپ کے لئے غائبانہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔





## مکتوب ۱۰۶

## بنام مولوی سعد اللہ صاحب نبیرہ

جناب حقائق و معارف آگاہ حاجی مولوی غلام حسین صاحب مرحوم

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

اپنے حضرات کے ختم شریف خاص طور سے حضرت صاحب قبلہ و کعبہ کا ختم

شریف!

رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين

اور حسبن الله ونعم الوكيل

کا ورد بلا ناغہ رکھیں اور ان حضرات کے وسیلہ سے درگاہ رب العزت میں اپنی

حاجت روائی کے لئے دعا مانگیں۔ فقط



## حدیث کی تعلیم

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اُس بندے کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اُس کی حفاظت کی، یاد رکھا اور جس طرح اُس نے سنا تھا اسی طرح جوں کا توں اُس نے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جسے (بالواسطہ) بات پہنچتی ہے وہ (براہ راست) سننے والے سے زیادہ اس بات کو یاد رکھ لیتا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

## مکتوب ۱۰۷

بنام حاجی حافظ محمد خان صاحب ترین

سکنہ اڑی افانغنہ توابع ضلع مظفر گڑھ

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ذیلدار کی اصلاح فرمادے، اگر نہیں تو پھر اپنے فضل و کرم سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک ہے۔ اپنے اصلی مقصد یعنی یاد مولیٰ میں ہمہ تن مصروف رہیں۔ منتقم حقیقی ہر شخص سے خواہ دیر سے یا جلدی بہر صورت بدلہ ضرور لے گا۔



## مکتوب ۱۰۸

بنام سید سردار علی شاہ صاحب ولد

بہاؤ الدین شاہ صاحب بخاری ملتانی

آپ کے پریشان حالات کی وجہ سے فقیر کو بوجہ تقاضائے بشریت بہت فکر و تردد ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے اس لئے اس میں بہتری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

یعنی اے انسان تجھ کو جو مصیبت پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔

مکتوب ۱۰۹

بنام ابراہیم خاں

نمبر دار غورہ زئی بدین زئی بمقام کوٹ فیروزٹی غورہ زئی

علاقہ ٹانک گمل بازار توابع ڈیرہ اسماعیل خاں

اس درود شریف کو!

یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی

خیر خلقہ محمد

دن رات میں ایک سو مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں

اپنی شادی کے لئے دعا کریں۔ انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔



مکتوب ۱۱۰

بنام مولوی احمد خاں صاحب

سکنہ موضع بکھرہ علاقہ میانوالی توابع ضلع بنوں

یہ سچ ہے کہ مرشد کے وصال پر مرید صادق کو بڑے رنج و الم کا سامنا کرنا

پڑتا ہے۔ لیکن صبر سے کام لینا چاہئے اور گریہ و زاری نہ کریں۔ فقیر کو اپنے صبر اور

تحصیل علوم درسیہ میں اپنا مدد و معاون تصور فرمائیں۔





## مکتوب ۱۱۱

بنام سید عبدالعیاض آخوندزادہ صاحب

ولد سعد الدین آخوندزادہ صاحب

یقین جانئے کہ فقیر نے اب تک نہ کوئی وظیفہ اور نہ ہی حزب البحر پڑھی ہے۔

عالموں کے معمولات اور ہیں اور حضرت مجدد الف ثانی قدسنا اللہ تعالیٰ کے درویشوں کا طریقہ کچھ اور ہے۔ یہ تمیز درویشوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔

نیز اپنے دنیاوی کاموں کی خیر و برکت کے لئے ہزار بار اس درود شریف کا

ورد رکھیں۔

اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد

صلوٰتک بعد معلوماتک وبارک وسلم علیہ



### چار چیزیں

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”چار چیزیں ہیں جسے وہ میسر آگئیں اُسے دُنیا و آخرت کی بھلائی

حاصل ہوگئی، ۱۔ شکر گزار دل، ۲۔ خدا کو یاد کرنے والی زبان،

۳۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ۴۔ ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر

کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔“ (بیہقی)

## مکتوب ۱۱۲

بنام جناب مولوی حسین صاحب قوم میانہ

سکنہ موضع وان پچھراں علاقہ میان والی توابع ضلع بنوں

آپ نے خواب میں جو فقیر کو مرض اسہال میں مبتلا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بندگان دین علیہم الرضوان نے یہ لکھا ہے کہ پیر شیشہ کی مانند ہوتا ہے وہ اس میں اپنے مریدوں کو دیکھتا ہے۔ فقیر کے لئے اس قسم کی باتیں کرنا روا نہیں کیونکہ فقیر خود حقیر اور نالائق محض ہے۔ مجبوراً تحریر کر رہا ہوں۔ نجاست ظاہری سے مراد گناہ ہیں سو اگر کوئی شخص نجاست ظاہری کو دور ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے گناہ دُھل جاتے ہیں، یعنی آپ کے گناہ دُھل گئے ہیں۔ نیک اور مبارک خواب ہے۔



## مکتوب ۱۱۳

بنام ملا اولیا صاحب نیازی

اگر آپ کی ملا محمد رسول آخوندزادہ صاحب سے ملاقات ہو جائے تو ان کو میرا سلام مسنون پہنچا دیجئے اور یہ عرض کر دیجئے کہ عرصہ سے آپ کا نہ کوئی سلام پہنچا ہے اور نہ پیام۔ خیر جو کچھ بھی حسینوں سے صادر ہو جائے وہ زیبا ہے۔



## مکتوب ۱۱۴

بنام غلام قادر صاحب خلف میاں عبدالرحمن صاحب

سکنہ ڈیرہ اسماعیل خاں

حقیقی کارساز اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے۔ عاجزوں کا کام تو دعا کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔



## مکتوب ۱۱۵

بنام ملا عبدالمجید آخوندزادہ صاحب

سکنہ موضع دہرمہ توابع ضلع بنوں

اے عزیز فقیر کے پاس اس قسم کے تعویذ نہیں ہیں اور نہ ہی فقیر عامل ہے اس قسم کے وظیفے اور تعویذات عالموں کے پاس ہوتے ہیں۔ فقیر کے پاس جناب کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں۔





## مکتوب ۱۱۶

## بنام مولوی سید ابو محمد برکت علی شاہ صاحب

سکنہ علاولپور توابع جالندھر

اے بھائی اپنے قیمتی اوقات کو جن کا کوئی نعم البدل نہیں صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاعات و عبادات میں گزاریں۔ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لئے ہونا چاہئے۔ ایک لمحہ اور ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، بخار کی وجہ سے جواب میں تاخیر ہو گئی معاف فرمائیں۔



### ورثاء کے لئے مال چھوڑنا

حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میرے شدید درد کی وجہ سے عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میں نے کہا: میرا درد جس حد کو پہنچ چکا ہے وہ آپ ﷺ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سامال ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہو سکتی ہے، کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: ”نہیں“ میں نے کہا، آدھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں“ میں نے عرض کیا: اچھا ایک تہائی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں ایک تہائی، اور ایک تہائی بھی بہت ہے، اس لئے کہ تمہارا اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔“

مکتوب ۱۱۷

## حقائق و معارف آگاہ حضرت صاحبزادہ

مولانا مولوی سراج الدین صاحب مدظلہ و عمرہ ور شدہ

### وجناب مولوی محمود شیرازی صاحب

چونکہ فقیر شدت امراض کی وجہ سے حال سے بے حال ہے اس لئے جناب قاضی قمر الدین صاحب ممدوح و شاہ صاحب موصوف نے تسبیح خانہ کی کتابوں کی فہرست تیار کی ہے۔ کتاب ہدایہ جلد اول اور حافظ جی والہ یعنی ہدایہ ایک جلد کتاب البیوع سے کتاب الشفعہ تک اور کتاب ازرقانی شرح موطا امام مالک از کتاب النکاح تا حدود (ایک جلد) نہیں ہے۔ یہ تینوں کتابیں فقیر کی بیماری کے دوران گم ہو گئی ہیں۔ الخیر فیما وقع۔

قاضی قمر الدین صاحب کتاب شرح الصدور مصنفہ ملا سیوطی لائے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ کتاب بدور الساقرہ فی احوال الآخرہ بھی مل جائے گی۔ نیز مولوی محمد عیسیٰ خاں صاحب نے بستان ابولیت سمرقندی و تنبیہ الغافلین طبع مصری عنایت فرمائی ہے۔



## مکتوب ۱۱۸

بنام مولوی نور خاں صاحب قوم آوان

سکنہ چکڑالہ علاقہ میانوالی توابع ضلع بنوں

اے عزیز مبادی تعینات ممکن عدمیات ہیں۔ صاحب طریقہ عالیہ نقشبندیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جب تعینات عدمیات ہوئے تو سلامتی پھر کہاں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں۔

”صوفی جب تک آپ کو کافر سے بدتر نہ جانے وہ کافر سے بدتر

ہے“

یہ مسئلہ کئی بار جناب کے آگے بیان کیا گیا ہے کیا کیا جائے، صحبت کے دن کم ملتے ہیں۔ ملاقات ہونے پر انشاء اللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ فی الحال معاف فرمائیں۔



## مکتوب ۱۱۹

بنام حاجی حافظ محمد خاں صاحب ترین

سکنہ اڑی افاغنے توابع ضلع مظفر نگر

فقیر کا یہ حال ہے کہ اکثر بیمار رہتا ہوں۔ ہر طرح سے تسلی رکھیں۔ اپنے اوقات عزیزہ کو اللہ کی یاد میں جو سب سے اولیٰ و برتر ہے مشغول رکھیں۔





مکتوب ۱۲۰

## بنام جناب مولوی محمود شیرازی صاحب

### سکنہ شیراز توابع ایران

جناب جیسا کہ برخوردار کے لئے علم ظاہری ضروری ہے اسی طرح اس کے لئے باطنی علم بھی ضروری ہے۔ فقیر کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ برخوردار کو علم باطنی حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ اس وقت تک فقیر زندہ ہے امید ہے علم باطن سے اس کو کما حقہ واقفیت ہو جائے گی۔ لہذا آپ سے بطور مشورہ معلوم کر رہا ہوں کہ اگر آپ فقیر کے خیال سے متفق ہیں اور عوارضات آپ کو اجازت دیں تو اس کو اپنے ہمراہ یہاں لے آئیں۔ اگر آپ کا کوئی دوسرا خیال ہے تو بھی مطلع فرمائیں۔



### عمل کا دار و مدار

حضرت عمرؓ بن الخطابؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کے لئے بس وہی کچھ ہے جس کی اُس نے نیت کی ہے، تو پھر جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے تو (واقعی) اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دُنیا کی طرف ہے کہ اُسے حاصل کرے یا عورت کی طرف ہے کہ اُس سے شادی کرے تو (واقعی) اس کی ہجرت اُسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی (نیت کی) ہے۔“ (بخاری، مسلم)

مکتوب ۱۲۱

## بنام جناب میر اصحاب قلندر

سکنہ پشین علاقہ بلوچستان

اے عزیز قدیم سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ خدا پرستوں پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ پس آپ کے لئے لازم ہے کہ صبر سے کام لیں۔ بلکہ راضی بقضار ہیں اور اپنے اصلی کام یعنی مولیٰ کی یاد میں ہمہ تن مصروف رہیں۔

قیل ان اللہ ذو ولد

قیل ان الرسول قد کہنا

مانجی اللہ والرسول معا

من لسان الوری فكيف انا

”کفار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے اور رسول پاک صلی

اللہ علیہ وسلم کا ہن ہیں۔ جب خدا اور رسول نے زبان بد گوئی سے

نجات نہیں پائی تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں۔“

مندرجہ بالا اشعار کو بہ غور ملاحظہ فرمائیں گے تو اصل حقیقت آشکارا ہو

جائے گی۔



## مکتوب ۱۲۲

بنام مولوی نور الدین صاحب

پیش امام موضع اوگالی ڈاکخانہ نوشہرہ علاقہ

خوشاب توابع ضلع شاہ پور

## (سوالوں کے جوابات جو حضرت قبلہ نے دیئے)

سوال: قربان جاؤں بہت سے لوگ دم کرانے کی خاطر بندہ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے متعلق جو ارشاد ہو تعمیل کی جائے۔

جواب: الحمد شریف اور چاروں قل شریف پڑھ کر نمک پر دم کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو شافی مطلق ہے شفاء کلی عطا فرمائے گا۔

سوال: ذکر کے وقت لطائف میں حرکت محسوس ہوتی ہے لیکن بہ غور خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام جسم جنبش کر رہا ہے۔ روکنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہوتا۔

جواب: کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہاں اپنے اختیار سے نہ کریں۔ اگر ایسا بے اختیار ہوتا ہے تو ہونے دو۔

سوال: مراقبہ کے وقت ریا کے خوف سے غلام منہ پر کپڑا نہیں ڈالتا۔ کیا کپڑا ڈالنا ضروری ہے؟ ارشاد فرمائیں۔

جواب: اس میں کوئی ریا نہیں۔ فقراء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضوری و یکسوئی کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔





مکتوب ۱۲۳

بنام اکبر نیازی

## سوالوں کے جواب

سوال اول: کوئی ایسا ورد ارشاد فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مشائخ عظام کی محبت حاصل ہو۔

سوال دوم: اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے سب گناہوں کو معاف فرمادے۔

سوال سوم: معاش کا کوئی ایسا ذریعہ نکل آئے جس سے قرض وغیرہ سے سبکدوشی حاصل ہو جائے۔

تینوں سوالوں کا جواب: تینوں مقاصد کے لئے یہ درود شریف جس کا معمول حضرت صاحب قبلہ و کعبہ نور اللہ مرقدہ الشریف رکھتے تھے بلا تاناہ با وضو پڑھا کریں۔

اللہم صلّ علی سیدنا محمد وعلیٰ ال سیدنا محمد افضل

صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم علیہ

دن رات میں ہزار مرتبہ، اگر اتنا نہ ہو سکے تو پانچ سو مرتبہ۔ اگر اس قدر بھی

نہ پڑھ سکو تو سو مرتبہ ورد کر لیا کریں۔



## مکتوب ۱۲۴

بنام میاں شیخ محمد بخش صاحب سنہ کلاچی گندہ پوران

## سوالات کے جواب

۱۔ کیا ذکر کرنے کے لئے اپنے آپ کو دنیاوی کاروبار کے خیالات سے خالی کرنا، نیز با وضو ہونا اور وقت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟

۲۔ ہر روز قرآن شریف کی تلاوت کتنی کرنی چاہئے۔ دلائل الخیرات کے پڑھنے کی بھی اجازت فرمائیں۔

۳۔ براہ مہربانی دینی اور دنیاوی مشکلات و مہمات میں کامیابی کے لئے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔

جواب: ہر کام میں ہر وقت ذکر کا خیال رکھیں۔ چاہے وضو ہو یا نہ ہو قرآن شریف جتنا بھی آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھیں۔ تلاوت کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں۔ دلائل الخیرات کے پڑھنے کی آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔

دینی و دنیاوی مشکلات میں کامیابی کے لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم شریف اس طرح پڑھیں۔ پانچ سو مرتبہ  
لا حول ولا قوۃ الا باللہ،

اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب جناب حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچا کر آپ کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی دعا مانگیں، قاضی الحاجات آپ کو جمیع مقاصد و مطالب میں کامیابی عطا فرمائے گا۔



حصہ دوم

✽ مختصر حالاتِ زندگی

حضرت مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب

رحمۃ اللہ علیہ

✽ مکتوبات

حضرت مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب

رحمۃ اللہ علیہ



تمام یہاں شیخ محمد بخش صاحب کے کلامی مجموعہ پر مبنی

## سوالات کے جوابات

”مرد وہ ہے کہ لوگوں میں رہے۔ لیکن دین بھی کرے۔ اولاد بھی پیدا ہو۔ شریعت کی باتوں پر خود عمل کرے اور دوسروں سے عمل کرائے اور باوجود ان باتوں کے ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو۔“

(خواجہ باقی باللہؒ)

جناب قبلہ و کعبہ اسرار العارفین، قطب الواصلین، سراج السالکین، جناب خواجہ خواجگان

## حضرت مولانا حاجی محمد سراج الدین صاحب

نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

### کے مختصر حالات

#### ولادت باسعادت

حضرت سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۵ محرم الحرام ۱۲۹۷ھ میں موسیٰ زئی شریف میں پیدا ہوئے۔ دوست احباب، علماء و فضلا کی طرف سے حضرت حاجی عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مبارک باد کے پیغام آنے لگے۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ خوشی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل اُمید تھی کہ اس کے فضل و کرم سے ایک دن یہ فرزند بڑا ہو کر نور معرفت الہی سے مخلوق خدا کے سینوں کو منور کرے گا۔ عالم ہو گا فاضل ہو گا اور اپنے علم ظاہری و باطنی سے بندگان خدا کو سیراب کرے گا۔ چنانچہ درگاہ رب العزت میں دعائیں کی گئیں، جو قبول ہوئیں۔ دل کی مرادیں بر آئیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی بدولت دل کی اُجڑی بستیاں آباد ہونے لگیں۔ تاریک دلوں سے ظلمت و کدورت کے بادل چھٹنے لگے۔ سینے نور الہی سے منور ہونے لگے۔ بال بال سے ذکر اللہ جاری ہونے لگا۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ○

## تحصیل علم ظاہری و باطنی

حضرت قبلہ و کعبہ جناب حاجی محمد سراج الدین صاحب نے قرآن مجید کی تعلیم جناب ملا شاہ محمد صاحب اخوند قوم باہڑ سے حاصل کی۔ نثر و نظم، صرف و نحو، منطق، عقائد، مطول، علم قرأت، علم فقہ، کنز الدقائق، شرح و قایہ، جلدین اولین و ہدایہ جلدین آخرین علم فقہ، نور الانوار حامی، قدوری، علم تفسیر، تفسیر جلالین، علم حدیث، مشکوٰۃ شریف نصف اول، ابن ماجہ شریف نصف اول جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سے پڑھیں۔ اور باقی کتابیں مولوی حسام تا آخر، شرح و قایہ جلدین آخرین، ہدایہ جلدین اولین اور تفسیر مدارک و تنقیح الاصول و تلخیص المفتاح ترجمہ قرآن شریف اور مشکوٰۃ شریف نصف آخر، صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ جناب مولوی حسین علی صاحب سے پڑھیں۔

علم تصوف میں مکتوبات قدسی آیات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں جلدیں اور مکتوبات حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں جلدیں کامل اور باقی کتب تصوف کما حقہ، با تحقیق و التفصیل اپنے حضرت والد ماجد قبلہ عالم و عالمیان قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس حضرت خواجہ حاجی محمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔

## حج بیت اللہ شریف

حج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ محبوب رب العالمین کا شوق آپ کے دل میں موجزن تھا۔ آخر وہ دن نصیب ہوا چند دوستوں کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لئے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ پر اور آپ کے طفیل میں ساتھیوں پر جو فیوضات اور کیفیات طاری ہوئیں وہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔

مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی آپ کو اپنا ہوش نہ رہا۔ ہوش تھا تو صرف اتنا کہ میں تاجدار مدینہ سردار دو عالم کا ایک ادنیٰ سا غلام ہوں۔ جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سب



غربا اور مساکین میں تقسیم کرادیا۔

حاجی محمد مقبول صاحب جو آپ کے خاص آدمیوں میں سے تھے اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ حضور نے جو کچھ رقم میرے پاس رکھوائی تھی وہ سب تقسیم کرادی۔ مجھے خیال ہوا کہ گھر واپس کیسے جائیں گے فرمایا۔

”خان صاحب اللہ اگر یہاں رکھنا چاہے گا تو یہاں سے ہرگز نہیں جاسکتے اگر یہاں سے وطن بھیجنا چاہے گا تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بچانے کی پروا نہ کرو۔ جو کچھ باقی ہے وہ بھی تقسیم کر دو، اللہ کار ساز ہے۔“

چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی۔ دو تین روز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی اسماعیل صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دو ہزار روپیہ بطور نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا لیجئے خان صاحب آپ ڈر رہے تھے۔

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ

جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہے۔

ملا خان محمد صاحب کا بیان ہے کہ ملا صدرو صاحب جو حضرت کے ہم سفر تھے فرماتے تھے کہ حضرت کا جن دنوں مدینہ منورہ میں قیام تھا تو ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت قبلہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ غسل سے فارغ ہو کر روضہ منورہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں کے خدام سے گفتگو کے بعد اپنا پہنا ہوا لباس اتار دیا اور نیا عربی لباس زیب تن کیا۔ دائیں بازو پر آستین لڑکالی اور ایک موم بتی جلا کر اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے روضہ مطہرہ میں داخل ہوئے۔ اس بتی سے ایک دو اور قندیل روشن کئے۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر روضہ مبارک سے فیوضات و برکات حاصل کرنے لگے۔ دعا و گریہ و زاری میں کافی دیر تک مشغول رہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ وہاں سے تشریف لائے۔ اپنا اتارا ہوا لباس پہن لیا اور نیا عربی لباس خدام کو واپس دیدیا۔ اور خدام کو نہایت مؤدبانہ طریقے پر شکرانہ ادا کیا۔ ملا صدور نے دو

روپے کی کھجوریں خرید کر شکرے کے طوپر غربا میں تقسیم کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبلہ کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ بتی جلانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت قبلہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خادم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک رئیس اپنے دولت کے نشہ میں چور ہو کر تکبر و تمکنت کے ساتھ روضہ مبارک میں داخل ہوا۔ قدم رکھتے ہی انوارات و تجلیات کی تاب نہ لا کر وہیں جل کر ڈھیر ہو گیا۔

قصہ مختصر محبوب رب العالمین کے روضہ مبارک کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا کر بادل ناخواستہ روتے اور الوداعی سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے محبوب ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

### جلسہ دستار بندی

جب آپ علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ و کعبہ جناب حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض خلفاء، علماء اور اکثر احباب و مخلصین کو جلسہ دستار بندی میں شامل ہونے کے لئے اطلاعیں دیں۔ وہ تمام حضرات گرامی جن کو مدعو کیا گیا تھا اطراف و جوانب سے آکر خانقاہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ان کے علاوہ مریدین بھی بڑے ذوق و شوق سے جلسے میں شامل ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر ختم خواجگان نقشبندیہ مجددیہ پڑھا گیا۔ اور اس کے بعد سب نے مل کر کلام اللہ شریف کے تین ختم پڑھے۔ بعدہ چند حفاظ اور قاریوں نے قرآن مجید کی سورتیں بلند آواز سے پڑھیں جیسا کہ ہمارے حضرات کرام کا معمول ہے۔

ختم شریف کے اختتام کے بعد حضرت قبلہ و کعبہ خواجہ عثمان دامانی نے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی طرف متوجہ ہو کر

دیر تک دعا مانگی۔ یہاں تک کہ اسی اثناء میں بعض حضرات پر جذبے کی حالت طاری ہو گئی۔

دوسری دفعہ پھر دعا مانگی کہ خداوند کریم جمیع حاضرین اور غائبین و مریدین طریقیہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو اپنے فیوضات و برکات و انوارات سے مالا مال کر دے۔ آمین!

بحرمة النون والصاد بالنبی وآله الامجاد علیہ وعلیہم

الصلوات والتحیات

تیسری دفعہ جمیع حاضرین مجلس کی کل حاجات و مشکلات کے حل ہونے کی دعائیں مانگیں۔ اے خداوند کریم حاضرین مجلس کے تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو بخیر و خوبی انجام دے، و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، دعاؤں کے بعد حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے باقی حضرات نے بھی تعظیماً ایسا ہی کیا۔

دستار بندی کا طریقہ کار

جناب قبلہ و کعبہ خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے اول خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر نصف دستار فضیلت اپنے ہاتھ سے باندھی اور باقی دو بیچ جناب مولوی محمود صاحب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دو بیچ جناب مولوی حسین علی صاحب نے اپنے ہاتھ سے آپ کے سر مبارک پر باندھے۔ باقی تمام دستار مبارک حضرت لعل شاہ صاحب نے جناب حضرت قبلہ کے سر پر تمبر کا باندھی۔ پھر حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو چوغہ پہنایا۔ یہاں تک کہ جمیع حاضرین مجلس کی طرف سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی محمود شیرازی کے سر پر استادی کی دستار باندھی کیونکہ مولوی صاحب خواجہ سراج الدین کے پہلے



استاد تھے، بعدہ تیسری دستار جناب مولوی حسین علی صاحب کے سر پر باندھی آپ بھی حضرت قبلہ و کعبہ حضرت محمد سراج الدینؒ کے استاد تھے چوتھی دستار آپ نے جناب مولوی محمد عیسیٰ خان صاحب کے سر پر باندھی کیونکہ آپ نے حضرت خواجہ سراج الدینؒ کے ساتھ مل کر علم حاصل کیا تھا۔ پانچویں حضرت قبلہ نے دستار بزرگی حضرت سیادت و سعادت پناہ شرافت و نجابت دستگاہ سید لعل شاہ صاحب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر باندھی۔ آپ حضرت قبلہ صاحب کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ اور حضرت حاجی عثمان دامانی رحمۃ اللہ نے حضرت شاہ صاحب مرحوم کے واسطے اپنی ضمانت کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی۔ دستار کے علاوہ آپ کو چوغہ بھی پہنایا گیا۔ بعد ازاں باقی دستاریں مندرجہ ذیل خلفاء اور فضلاء کے سر پر باندھیں۔ اسماء گرامی یہ ہیں۔

ملا محمد سعید اخوندزادہ صاحب برادر عزیز جناب قبلہ و کعبہ خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب حاجی قلندر خاں صاحب رئیس ٹڈی، جناب حافظ محمد یار صاحب پیلانی، قاضی عبدالرسول صاحب انگوی، جناب قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی، مولوی ولی محمد صاحب، قاضی عبدالغفار صاحب، عبدالمجید اخوندزادہ صاحب، ملاقطار صاحب، ملار و نداد صاحب، جناب مولوی نورالحق صاحب شاہ پوری۔

جلسہ دستار بندی کے اختتام پر شیرینی تقسیم کی گئی اور حضرت قبلہ و کعبہ جناب خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حاضرین کے ساتھ مل کر دعائے خیر مانگی، کچھ دن بعد سوموار کے روز نماز فجر کے بعد ۷ ربیع الاول ۱۳۱۴ھ میں حضرت قبلہ و کعبہ جناب خواجہ محمد عثمان صاحب نے اپنی زندگی ہی میں جناب سراج السالکین خواجہ محمد سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حلقہ شریف کرانے اور توجہ دینے پر معمور فرمایا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کی۔ آپ کی توجہات بابرکات کی بدولت جملہ درویش اور مریدین بہت سی برکات و فیوضات سے نوازے گئے۔

## اجازت نامہ

ایک دن مجمع عام میں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کو حضرت قبلہ و کعبہ مولانا محمد سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے اجازت نامہ لکھنے کے لئے امر فرمایا۔

اجازت نامہ جو مولوی شیرازی صاحب نے لکھا تھا اس کی اصل نقل درج ذیل

ہے۔

## اجازت نامہ (بزبان فارسی) کا اردو ترجمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المرشد علی الاطلاق بالحسنی الی الدرجة العلیا والطریقة المثلی والصلوة والسلام علی من اسخلفه بالخلافة علی العالمین كافة محمد المبعوث بالهدایة بحبوحۃ النبوة و مرکز الولاية وعلی الہ واصحابہ الا طهارالا سیما خلفائہ الاحرار مبادات فی محافل الصدق بالحق الباطل و انتف سمات البلابل.

اما بعد طریقت کے رائج کرنے کی امانت حضرت کرام مشائخ مجددیہ عظام کے دست بدست حضرت قطب الواصلین و غوث الکاملین قدوة الابرار و زبدة الاحرار سیدی و سندی و شیخی و وسیلہ یومی و غدی حضرت حاجی دوست محمد صاحب کو پہنچی اور ان کے وسیلے سے مذکورہ امانت اس فقیر کو نصیب ہوئی۔ جب سے اب تک یہ فقیر اس فرض کی ادائیگی میں حسب مقدور انتہائی کوشش کرتا رہا ہے۔ اب چونکہ فقیر کے بڑھاپے کا عالم ہے اور موت سر پر گھات لگائے کھڑی ہے۔ مدت سے یہ آرزو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرتا رہا ہوں کہ وہ کوئی ایسا قابل شخص پیدا کر دے

جو اس بار امانت کے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ترویج نسبت کے کام کو بخوبی سرانجام دے سکے۔ اور جس کی بدرجہ اتم کوششوں سے سلسلہ میں نظم قائم رہ سکے اور سلسلہ مذکورہ منقطع ہونے سے محفوظ رہے۔

اس وقت میرا فرزند ارجمند محمد سراج الدین (ارشدہ اللہ تعالیٰ الی احسن الطریق و اسعد مالہ و بالہ و هو ولی التوفیق) سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے اور شرعی و عرفی طور سے رشد و ہدایت کے قابل ہو گیا ہے۔ نیز علوم ضروریہ میں کماحقہ ملکہ اور مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ حضرات نقشبندیہ مجددیہ احمدیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، قلندریہ، شطاریہ، مداریہ، کبرویہ، کی نسبت شریفہ کی توجہات سے فیضیاب ہو چکا ہے۔ اور نسبت مذکورہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور اس کی برکات سے تہذیب اخلاق صوفیہ اور استقامت شریعت سے مشرف ہوا ہے اور ان معانی کو اپنے باطن میں مشاہدہ کر چکا ہے اور فقیر کے صاحب بصیرت احباب نے اپنے وجدان کے ذریعہ ان معنی کے حصول کی گواہی بھی دیدی ہے جو ان کے دل میں غیب سے القا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہر دل عزیز ہو گیا ہے۔ پس یہ فقیر اپنے فرزند کو مذکورہ بالا آٹھوں طریقوں کی مسند ارشاد پر اپنا قائم مقام اور خلیفہ مطلق و نائب مقرر کرتا ہے۔

وجعلت یدہ کیدی و قبولہ قبولی وردہ ردی فرحم اللہ

تعالیٰ من اعانہ و خذل من اهانہ

میں حضرت شیخ بزرگوار کے کل متوسلین جن کی تربیت اس فقیر کے سپرد تھی اور خود اس فقیر سے تعلق رکھنے والے کل حضرات



کو صاحب موصوف کے حوالے کرتا ہوں۔ فقیر کو اُمید کامل ہے کہ ان کے تمام متوسلین جناب حضرات کرام قدسنا اللہ تعالیٰ باسرار ہم کی برکت سے اس طریقہ کی مخصوص برکات سے بہرہ مند ہوں گے اور آپ کی صحبت بابرکت کی بدولت اس قوم یعنی صوفیاء عظام کی خصوصیات میں سے حصہ کامل حاصل کریں گے۔

اللہم انصر من نصرہ و اخذل من خذله و ایدبہ الدین و اجعلہ اماما للمتقین و ارزقہ الا ستقامۃ علی السنۃ السنیہ و الشریعۃ العلیہ - امین، امین برحمتک یا ارحم الرحمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین

مورخہ ۳/۳/۱۳۱۱ھ القعدہ الحرام ۱۳۱۱ھ،

ان حضرات کے اسمائے گرامی جنہوں نے سند پر اپنے قلم سے دستخط کئے۔

**العبد**

جناب مولوی محمود شیرازی صاحب  
بقلم خود

**العبد**

جناب حضرت لعل شاہ ہمدانی  
بلاولی بقلم خود

**العبد**

میرا صاحب قلندر سکنہ پشین  
بقلم خود

**العبد**

ملا محمد سعید آخوندزادہ صاحب  
برادر حضرت قبلہ بقلم خود

**العبد**

حافظ محمد یار صاحب اووان  
بقلم خود

**العبد**

سید امیر شاہ صاحب ہمدانی بلاولی  
بقلم خود

**العبد**

جناب مولوی حسین علی صاحب  
بقلم خود

**العبد**

جناب قاضی عبدالرسول صاحب  
بقلم خود

## العبد

جناب مولوی نور خاں صاحب  
بقلم خود

## العبد

حقداد خاں صاحب ترین  
بقلم خود

## العبد

حاجی قلندر خاں صاحب رئیس  
مڈی بقلم خود

## العبد

محمد رب نواز خاں صاحب میاں خیل تاجو  
خیل رئیس موسیٰ زئی ملقب بہ خان بہادر  
بقلم خود

قبلہ و کعبہ جناب خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حسب ارشاد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے اجازت نامہ کو مجمع عام میں بلند آواز سے پڑھا اور جمیع حاضرین محفل نے نامہ مذکورہ کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ بلکہ حضرت قبلہ عالم قدس اللہ تعالیٰ بسرہ الاکرم نے دریافت فرمایا۔

صاحبزادہ کی خلافت سے کیا آپ سب متفق ہیں؟

جمیع حاضرین کی طرف سے صدائے آمانا و صدقنا بلند ہوئی اور حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم فرمانے لگے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب کا پاپوش میرے سر کا تاج ہے اور مجھے یہی بسر و چشم تسلیم بھی ہے۔

اس کے بعد حضرت قبلہ و کعبہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستار مبارک اپنے ہاتھ سے حقائق و معارف آگاہ حضرت مولانا محمد سراج الدین صاحب کے سر مبارک پر باندھی۔ اس وقت جو مریدین و مخلصین حاضر مجلس تھے سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہر طرف سے مبارک باد کی صدائیں آنے لگیں۔

اگر گیتی سراسر باد گیرد  
چراغِ مقبلاں ہرگز نمیرد

## تبلیغ دین

والد ماجد کی طرح آپ نے بھی تبلیغ دین کے لئے انتہائی کوشش کی۔ چنانچہ جگہ جگہ تبلیغ کے لئے جماعت کے ہمراہ تشریف لے جاتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ لوگ مدعو کرتے تو فرماتے کہ بھائیو میں تمہیں اللہ کے ذکر کی دعوت دیتا ہوں۔ فقیر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میرے ہاں خوب کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ لوگ جوق در جوق خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوتے تھے۔ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ خانقاہ شریف بھری رہتی تھی۔ شہر بہ شہر، قریہ در قریہ حتیٰ کہ گلی کوچوں میں آپ کی شہرت کا چرچا تھا۔ آپ کی صحبت بابرکت کی بدولت گھر گھر میں لوگ نمازی بن گئے، ان کے سینے اللہ کے نور معمور ہو گئے۔ خانہ دل سے اس کے ذکر سے آباد ہو گئے۔ چور اپنی چوری، ڈاکو اپنی ڈکیتی سے تائب ہو کر یاد اللہ میں لگ گئے۔

## مہمان نوازی

مہمان نوازی میں آپ ہو بہو اپنے والد صاحب کی مثال تھے۔ کتنے ہی مہمان کیوں نہ آجائیں سب کی خاطر تواضع دل و جان سے کرتے تھے۔ مہمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک ایک کے پاس جاتے ان کی دیکھ بھال اور مزاج پر سی کرتے۔ ہر طرح کا خاطر خواہ آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ خدام کو بھی خاص تاکید تھی کہ خبردار کسی مہمان کا دل آزرہ نہ ہونے پائے۔ بیماروں کے لئے پرہیزی کھانا تیار کراتے اور بڑی محبت سے ان کو کھلاتے۔ ظاہری کھانوں کے علاوہ باطنی نعمتوں سے بھی خوب نوازتے تھے۔ فیض کا یہ عالم تھا کہ جس پر نظر کرم پڑ گئی کمال کو پہنچا دیا، سینہ مبارک سے ایک آہ نکلتی تھی اور لوگ تڑپ اٹھتے تھے۔ کئی کئی گھنٹہ لوگ وجد اور بیہوشی کے عالم میں پڑے رہتے تھے۔ کسی کو اپنی خبر نہ تھی، جس کو دیکھو اللہ کی یاد میں مست و دیوانہ ہے۔ اللہ اللہ کیادن تھے وہ!! ہو حق کی صداؤں سے فضا گونج اٹھتی تھی۔



## وفات مبارک

موت برحق ہے۔ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ کون ہے جو اس کے چنگل سے بچ سکتا ہے۔ سب کو اس کا مزا چکھنا ہے۔ آخر پیغام اجل کی یہ گھڑی ہمارے پیرو مرشد حضرت سراج السالکین خواجہ محمد سراج الدین صاحب کے لئے بھی آ پہنچی۔  
۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ بروز جمعہ انتقال فرمایا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

سوائے صبر کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ غور کا مقام ہے۔ اس موت نے کتنوں کے گھر برباد کئے ہیں۔ کتنوں کو یتیم کیا ہے، کتنوں کے سہاگ اُجاڑے ہیں۔ کتنوں کی اُمیدوں پر پانی پھیرا ہے۔ کتنوں کی خوشیوں کو ملیا میٹ کیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ جب فرشتہ اجل آ پہنچتا ہے تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ مگر اب پچھتانے سے کیا بنتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے نہ ایک ساعت پہلے آتی ہے۔ نہ ایک ساعت پیچھے ہٹتی ہے۔ ہاں جس نے اللہ کی یاد میں زندگی گزاری وہ کامیاب ہوا۔ جو غافل رہا وہ ناکامیاب! خبردار فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔

پس موت کو یاد رکھو اور قبر کو نہ بھولو جو آخری ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد حساب کے لئے پیش ہونا ہے۔

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

جہاں غافلوں کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

زندگی آمد برائے بندگی

زندگی بے بندگی شرمندگی

کھا کر پلاؤ تو رے گمراہ ہوا تو زور میں

جانا نہیں کیا گور میں مرنے سے کیا انکار ہے

قطعہ تاریخ وفات حضرت سراج السالکین

خواجہ محمد سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

از حقد اذخاں ترین

آں مآة تاب برج فیوضات نقشبند

آں فیض بخش عالم و خورشید عارفین

ماہ ربیع الاول تاریخ بست و شش

در روز جمعہ گشت بفر دوس جاگزین

احقر نوشت مصرع سال وصال او

واصل شدہ بدوست محمد سراج الدین

۱۳۳۳ھ

اسمائے سامی خلفائے نامی

حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

۱- قاضی قمر الدین صاحب چکڑالہ والا،

۲- محمد برکت علی شاہ صاحب کلکتہ،

۳- مولوی غلام حسین صاحب کانپوری،

۴- مولوی احمد خاں کہولہ والا،

۵- ملا محمد نور اخوندزادہ صاحب پونہ قریشی،

۶- مولوی عبدالرحمن پشوری،

- ۷۔ مولوی عبدالرحمن راولپنڈی،
- ۸۔ مولوی غلام حسین صاحب گرہ سوانگ،
- ۹۔ ملا عبدالرحمن صاحب ارغانی خراسانی،
- ۱۰۔ ملا محمد یلین قوم خروٹی پونہ،
- ۱۱۔ ملا صاحب محمد اعظم المعروف بہ بابز قوم دقتانی،
- ۱۲۔ ملا یحییٰ وادازی دالا خراسانی،
- ۱۳۔ ملا صاحبزادہ محمد سعید ہراتی،
- ۱۴۔ ملا فیض اللہ ہراتی،
- ۱۵۔ مولوی فضل علی قریشی جتوئی والا حال معروف مسکین پوری،
- ۱۶۔ ملا صاحبزادہ قندھاری اسم نامعلوم،
- ۱۷۔ عبدالقدوس شاہ معروف بمسافر شاہ،
- ۱۸۔ مولوی عبداللہ خاں نائب المناف خانقاہ خراسانی،
- ۱۹۔ مولوی شمس الدین صاحب لائل پور والا،
- ۲۰۔ پیر امیر شاہ وان کیلاں والا،
- ۲۱۔ سائیں فتح علی صاحب امی کراچی،
- ۲۲۔ سید ولایت شاہ ہمدانی،
- ۲۳۔ سید قمر الدین شاہ صاحب شجاع آباد ضلع ملتان،
- ۲۴۔ مولوی صاحب غلام محی الدین چندھر والا،
- ۲۵۔ حاجی محمد رفیق صاحب ہریپال کوه کسیر،
- ۲۶۔ حافظ محمد عمر صاحب میانوالی،
- ۲۷۔ قاضی دوست محمد صاحب تحصیل چنیوٹ ضلع جھنگ،
- ۲۸۔ مولوی احمد دین صاحب جھنڈیروی،
- ۲۹۔ مولوی محمد رفیق صاحب،



## مکتوب ا

## مکتوبات شریف

بنام محمد عیسیٰ خان صاحب

پوتے کے تولد ہونے کی اطلاع اور دنیاوی  
جھگڑوں سے دور رہنے کی نصیحت کے بارے میں

جناب مکرمی مولوی محمد عیسیٰ خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ، از طرف فقیر محمد  
سراج الدین غنی عنہ، بعد سلام مسنونہ معلوم ہو کہ آج بروز جمعہ ۱۹ محرم الحرام بوقت  
گیارہ بجے خداوند کریم نے نور چشم محمد بہاؤ الدین کو فرزند زرینہ عطا فرمایا ہے۔ خداوند  
کریم اس کی عمر دراز کرے اور اس کو نیک صالح بنائے، بالنون والصاد وآلہ الامجاد۔

آپ یہاں سے عید کے دن روانہ ہوئے تھے۔ جب سے اب تک آپ نے سلام  
سے بھی یاد نہ فرمایا۔ اوہو میں نے ایسا لکھ دیا غلطی ہوئی۔ گستاخی معاف ہو۔ آپ نے سنا  
ہوگا کہ الدنیار اس کل خطیبہ حاجی صاحب اور ملک دلدار خاں کے حق میں یہ  
اچھا نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو اس قدر الجھائیں۔ خیر معاف فرمائیں۔  
الحمد للہ یہ فقیر مع متعلقین فی الحال بخیر وعافیت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت  
سے رکھے اور شریعت عالیہ مصطفویہ علیٰ صاحبہما الصلوٰۃ والسلام پر استقامت عطا فرمائے،  
فقیر آپ کے لئے دعا کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی دقت نہ ہو تو جواب عنایت فرمائیں  
والسلام علی من اتبع الهدی۔



## مکتوب ۲

بنام نور محمد خان صاحب

## بھتیجے کیلئے دعا اور ارسال تعویذ کے بارے میں

محبت و اخلاص نشان نور محمد خاں حفظہ اللہ، بعد سلام مسنون و دعائے خیر و عافیت عرض ہے کہ آپ کا خط موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھتیجے کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور آپ کو اور اس کو ایسے کاموں میں مشغول رکھے جو آپ دونوں کے لئے مفید ثابت ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی نقصانات سے دور رکھے۔ آمین بالنون والصاد، آپ کے بھتیجے کے لئے دعا خاص کی گئی ہے۔ تعویذ ارسال خدمت ہے۔ باقی حالات حمد کے لائق ہیں۔ فقیر کو ہمیشہ دعا گو تصور کریں۔

والدعا ۱۳۲۶ھ فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## جہنم سے محفوظ آنکھیں

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی۔  
۱۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو، ۲۔ وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں پہرہ دے۔“

## مکتوب ۳

بنام مولوی عیسیٰ خاں صاحب

## عدالت میں طلب نہ کئے جانے کے بارے میں

بعد تسلیمات مسنونہ معلوم ہو کہ نامہ گرامی شرف صدور لا کر کاشفِ احوال ہوا۔ جواباً عرض ہے کہ خواتین کے مقدمے کا سر بیچ مولوی احمد صاحب ہیں۔ جناب مولوی حسین علی صاحب اور قاضی غلام گیلانی صاحب فیصلہ کرنے میں شریک ہیں۔ دونوں مولوی صاحبان کو ہر دو فریق نے اپنی رضامندی سے فیصلہ کرنے کے واسطے مقرر کیا ہے۔ فقیر نے مولوی صاحبان کو شریعت کے رو سے فیصلہ کرنے کے لئے کہا ہے لیکن اقرار نامے کی تحریر میں کسی طرح بھی میرا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی فقیر کا نام قرار نامے میں درج ہے۔ بلکہ فیصلہ کرنے کے لئے جو مجلس منعقد ہوئی تھی اس میں بھی فقیر شریک نہ تھا۔ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ فریق ثانی کے وکیل کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ فقیر کو عدالت میں طلب کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں تاکیداً التجا ہے کہ صاحب حج صاحب سے ملاقات کریں اور تمام حالات سے ان کو مطلع کریں اور فرمادیں کہ خواتین کے فیصلے سے فقیر کا کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ بھی خواتین نے کیا ہے اپنی رضا اور تیار سے کیا ہے۔ اگر میری طرف سے کوئی تحقیق ضروری ہو تو آپ اس کو مکمل کریں۔ البتہ حتی الوسع کوشش کریں کہ فقیر کو عدالت میں طلب نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو یہاں ہو جائے تو بہتر ہے۔ ورنہ تو مع جواب تشریف لائیں تاکہ فقیر کی عدم طلبی کے واسطے ڈپٹی کمشنر سے بندوبست کرایا جائے۔

والسلام خیر ختام فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ ۱۳۳۳ھ





## مکتوب ۴

بنام مولوی محمد عیسیٰ خاں صاحب

## احباب کے حق میں دعائیں اور خانقاہ شریف

### کے احوال کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم بخدمت جناب مولوی عیسیٰ خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ سلام مسنون کے بعد معلوم ہو کہ مکتوب گرامی موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ سد کی شکستگی اور زمینوں کے سیراب نہ ہونے کے حالات سے آگاہی ہوئی۔ دعا ہے کہ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے آپ کے سد کو پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے، اور حسب منشا آپ کی زمینوں کو سیراب کرے اور ہر قسم کے نقصان سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح کہ قبل ازیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔

محمد امیر خاں کا معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے۔ خداوند کریم خیریت کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ان کا دینی و دنیاوی اعزاز قائم رکھے اور اپنی مخلوق میں ان کو ممتاز بنائے۔ دوست احباب کی محبت میں ترقی ہو اور دشمنوں کی عداوت و شرارت سے محفوظ فرمائے۔ نیز اللہ تعالیٰ بارش رحمت نازل فرمائے۔ خشک سالی سے نجات دلائے اور زمینوں کو سرسبز و شاداب کرے۔ اس سے زیادہ اور کیا تحریر کروں۔ فقیر کے پاس دعا اور توجہ کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں۔ خداوند پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے خانقاہ میں فی الحال بالکل خیر و عافیت ہے۔ کبھی کبھی کچھ بارش ہو جاتی ہے۔ ہوا بزن ہونے کی وجہ سے مچھروں کا بڑا زور اور پھوؤں کی کثرت ہے۔ سبزہ لہلہا رہا ہے

موشیوں کے لئے گھاس بہت پیدا ہوا ہے۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیاں سبزہ زار بنی ہوئی ہیں۔ دودھ وغیرہ کی کثرت ہے۔ واللہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ والسلام  
۱۳۲۶ھ / فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ،



## مکتوب ۵

بنام مولوی عبدالحق صاحب

### وساوس اور خطرات کو دور کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجی و مشفق مولوی عبدالحق صاحب اوصلہ اللہ الیٰ غایۃ مایتمناہ فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ فقیر اب تک خیریت سے ہے۔ آپ کی سلامتی و عافیت کے لئے دعا گو ہوں۔ آپ کا خط پہنچا۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ فقیر کی توجہ اور دعا آپ کے ساتھ ہے۔

وساوس اور خطرات کو دور کرنے کے لئے ہمیشہ ذکر قلبی میں مشغول رہیں۔ حضرات کرام کے اس طریقہ پر عمل پیرا ہوں، یعنی پہلے تمام بدن کو قلب کی طرف متوجہ کریں تاکہ اس میں کوئی خطرہ اور وسوسہ باقی نہ رہے۔ پھر قلب کو ذات واحد قدوس کی طرف متوجہ کریں۔ انشاء اللہ العزیز اس طرح پر ذکر کرنے سے ہر قسم کے خطرات و وساوس کا دفعیہ ہو جائے گا۔ فقیر نے اس سے پیشتر جو ذکر تلقین کیا تھا اس کو برابر کرتے رہیں۔ فقیر کو ہمیشہ دعا گو تصور کریں۔

فقط والسلام!



## مکتوب ۶

## بنام مولوی نور الحق صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ جناب محمد نصاب ارشدی مولوی نور الحق صاحب۔ بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ آپ کا مکتوب گرامی جس میں آپ نے اپنی اور جملہ متعلقین کی خیر و عافیت و دیگر احوال سے مطلع فرمایا ہے کل موصول ہو کر باعث مسرت ہوا۔ جناب نے اشتیاق ملاقات کا اظہار کیا ہے۔ جناب من عرض یہ ہے کہ اس راستہ پر چلنے والوں کے لئے محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر فتوحات اور برکات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ باقی سب بے سود۔ بعض رسالوں میں تصور شیخ کے متعلق جو تحریر کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت و اشتیاق پیدا ہو جائے۔ تجربہ شاہد ہے۔ چونکہ آپ کو اس فقیر کے ساتھ سچی محبت ہے اس لئے فقیر کے دل میں بھی شوق ملاقات کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان اللہی محبت کا سلسلہ تاقیامت قائم رکھے اور اسی میں رفتہ رفتہ فنایت عطا فرمائے۔

رزقکم اللہ تعالیٰ و جمیع الاخوان کل المحبت و التحقیق

بحقیقتہا بحرمة سیدالانام علیہ و علیٰ الہ و صحبہ و الصلوٰۃ

و السلام۔

فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین عفی عنہ

خانقاہ موسیٰ زئی شریف





## مکتوب ۷

## بنام سید محمد شاہ صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سيادت و سعادت پناه شرافت و نجابت و ستگاہ شاہ سید محمد شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات ترقی درجات دارین معلوم ہو کہ فقیر کے حالات بمع متعلقین حمد کے لائق ہیں۔ آپ کی اور آپ کے لواحقین کی عافیت بارگاہ رب العزت سے نیک مطلوب عرض ہے کہ جس روز سے فقیر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے لئے علم کا حاصل کرنا ایک ضروری امر ہے تب سے یہ کوشش رہی ہے کہ خداوند کریم آپ کے لئے کوئی عالم مہیا کر دے جو آپ کو تعلیم دے سکے۔

گزشتہ روز ایک عالم مسمی فقیر عبد اللہ ساکن مڈی جو میرے حضرت قبلہ گاہی قدس سرہ کے خدام میں سے ہے فقیر کے پاس آیا اور دریافت فرمایا کہ میرے قیام کے لئے کونسی جگہ مناسب ہے، جہاں میں تعلیم دے سکوں۔ فقیر نے مولوی صاحب سے کہا کہ تمہارے واسطے خانقاہ شریف ”دندہ“ مناسب ہے۔ وہاں جا کر رہو اور حضرت شاہ سید محمد صاحب کو تعلیم دو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جو بھی ارشاد ہو تعمیل کی جائے گی۔ اگر یہ معاملہ منظور ہو تو جناب بھاون شاہ صاحب و مہر شاہ صاحب و میاں حاجی غلام علی صاحب اور مستورات بی بی صاحبان کے ساتھ مشورہ کر کے کسی خادم کے ہاتھ دستی خط میں سب کیفیت لکھ کر روانہ فرمادیں۔ اگر آپ رضامند ہو گئے تو فقیر عبد اللہ صاحب کو اسی خادم کے ہمراہ آپ کے پاس روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ کی ایسی مرضی نہ ہو تو بھی بذریعہ خط جلد مطلع فرمائیں تاکہ فقیر عبد اللہ صاحب کو جواب دیدیا جائے۔ بہر حال آپ کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ باقی حالات ملاقات ہونے پر عرض کروں گا،

## مکتوب ۸

بنام ملک مبارز خاں صاحب

## عمر عزیز کی قدر کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم بے شمار دعوات و تسلیمات کے بعد جناب محی و مکرمی ملک مبارز خاں صاحب کو معلوم ہو کہ فقیر آپ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور روز بروز نیکی کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ نیز گناہوں اور ناپسندیدہ بدعات سے پرہیز کرنا نصیب فرمائے۔

انسان کے پاس یہ عمر عزیز ایک عارضی امانت ہے۔ یہ حقیقت میں ایک بے بہا گوہر ہے جس کی قیمت دنیا و ماںہا سے بالاتر ہے۔ پس اس قیمتی عمر کو ناشائستہ کاموں میں برباد نہ کرنا چاہئے اور نہ ہی اسے حرص و ہوس کے غبار سے غبار آلود کرنا چاہئے۔ ہر حال میں اسے پاک و صاف رکھا جائے تاکہ جب مالک حقیقی کے دربار میں حاضر ہو تو انعام و اکرام کا مستحق قرار دیا جائے۔ ورنہ تو تباہی و بربادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور حشر کے روز خسارہ، رسوائی اور شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

اعاذ اللہ من الخسران والخذلان و افاضنا بالدرجات

والترقیات بالاعمال یوم المیزان۔

دوسری عرض یہ ہے کہ جناب مکرمی نور الحق صاحب کے مکتوب گرامی سے معلوم ہوا ہے کہ جناب ملک صاحب نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ لائسنس حاصل کرنے کی درخواست داخل فرمائی ہے۔ لائسنس مل جانے کی اُمید واثق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش کے صلے میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پیشتر فقیر نے اسلحہ کی



تعداد تحریر کر دی تھی۔ اُمید ہے آپ نے تعداد کے پیش نظر درخواستیں داخل فرمائی ہوں گی۔ اگر صوبہ پنجاب و صوبہ سرحد دونوں جگہ کے لائسنس مل جائے تو بہتر ہے ورنہ تو صوبہ پنجاب کے لائسنس حاصل کرنے کی پوری پوری کوشش فرمائیں۔ چونکہ حکام وقت کی نظروں میں آپ کی وقعت ہے اور آپ کو مقبولیت حاصل ہے، اس لئے آپ کی کوشش ہرگز رایگاں نہیں جائے گی۔ فقیر کو ہر حال میں اپنا دعا گو تصور کریں۔

فقیر حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## صدقے کی وسعت

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے۔ ایک بار الحمد للہ کہہ دینا صدقہ ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تم میں سے کسی ایک کا اپنی صنفی خواہش پوری کرنا صدقہ ہے۔“ لوگوں نے دریافت کیا: ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس پر بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، اگر وہ اپنی خواہش ناجائز طور پر پوری کرتا تو کیا وہ گناہ گار نہ ہوتا؟ اسی طرح جبکہ اُس نے اپنی خواہش جائز طور پر پوری کی ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔“

(مسلم)



## مکتوب ۹

## بنام مولوی عیسیٰ خاں صاحب

## قحط سالی اور ظاہری و باطنی شفا کے بارے میں

مجی و مکرمی و مخلصی جناب مولوی عیسیٰ خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ، فقیر حقیر  
لاشی محمد سراج الدین غنی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ  
نوازش نامہ شرف صدور لاکر کاشف احوال ہوا۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس زمانے کی بلاؤں اور  
مصیبتوں سے نجات فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

بالیسی والہ الامجاد و علی الہ من الصلوٰۃ اتمہا و اکملہا

باقی جو آپ نے قحط سالی کے متعلق تحریر فرمایا تھا اس کے دفعیہ کے لئے  
دعائیں کی گئی ہیں۔ صبح سے انشاء اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کا ختم شروع کریں گے۔  
خداوند کریم کی رحمت سے ناامید نہیں ہیں۔ دیرہ کے حالات سے جناب نے مطلع نہیں  
فرمایا کہ وہاں پر بھی بارش ہوئی یا نہیں۔

مگر آپ نے حاجی صاحب کے متعلق بھی نہیں لکھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں  
اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی مقدمہ میں اُلجھے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق مفصل حالات  
سے جلد مطلع فرمائیں۔ انتظار ہے۔

نور محمد خاں صاحب اور آپ کے لئے تعویذ ار سال کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ  
ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف تین مرتبہ اور درمیان میں تین مرتبہ الحمد شریف  
پڑھ کر اپنے وجود پر دم کریں اور تین تین دفعہ

اعوذ بکلمت اللہ التامات کلہا من شر ما خلق۔

اور تین بار بسم اللہ الذی لا یضرُّ مع اسمعہ شیءٌ فی الارضِ

ولافی السَّماءِ وَهُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ ۝

اس جگہ ایک مرتبہ بارش ہوئی ہے۔ آپ کو بھی تین روز تک کلام اللہ شریف کا ختم کرنا چاہئے، اور ایک لاکھ درود شریف، خداوند کریم سے فضل و کرم کی امید ہے۔

تقریباً ایک ماہ کے عرصہ سے ڈاکٹری علاج کر رہا ہوں، لیکن اب تک کوئی شفا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی شفا عطا فرمائے۔ زیادہ کیا لکھا جائے۔ فقیر ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو ہے۔

والسلام خیر ختام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## بدعت کی توقیر

حضرت ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے بدعت والے کی توقیر کی اس نے اسلام (کی عمارت) گرانے پر مدد دی۔“ (بیہقی)

## مکتوب ۱۰

بنام مولوی نورالحق صاحب

## بو اسیر کے عمل و دعا کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تسلیمات و دعوات کے بعد جناب مخلصی و محبی مولوی نورالحق صاحب کو معلوم ہو کہ یہاں بفضل تعالیٰ ہر طرح خیر و عافیت ہے اور آپ کی خیر و عافیت بارگاہ ایزدی سے مدام مطلوب۔ آپ کا نوازش نامہ موصول ہو کر کاشفِ احوال ہوا۔ دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے شفاً عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرمائے اور کل امراض حارہ و باردہ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔

آپ نے مرض کے دفع ہونے کے لئے حضرات کرام کا معمول دریافت فرمایا ہے۔ عجب نہیں کہ اسہال کا باعث بو اسیر ہو۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ جو معمول پہلے لکھ کر بھیجا تھا وہ بھی کریں اور اس کے علاوہ دعا ختم حضرت خواجہ احمد سعید صاحب قبلہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر شفا کے لئے بارگاہ ذوالجلال میں دعا کریں۔ شافی مطلق سے شفا کی امید ہے۔ ختم شریف یہ ہے۔

”یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثہ و مغاذہ یا رحیم“

فقیر ہر وقت متوجہ اور دعا گو ہے۔ والسلام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ





## مکتوب ۱۱

بنام مولوی حسین علی صاحب

## مقدمے کے بارے میں

جناب فیض مآب مکرمی مولوی حسین علی صاحب ادام اللہ بقاۃ۔ از فقیر حقیر  
لاشئ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات و تعظیمات عرض ہے  
کہ نامہ گرامی نیک ساعت میں شرف صدور لاکر کاشفِ احوال ہوا۔  
جناب من آپ کے حق میں دعائیں کی گئی ہیں اور آپ کے متعلق اپنے  
حضرات کرام قدسنا اللہ باسراہم کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ خداوند کریم فقیر کی  
شکستہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

انہ قریب مجیب و بالاجابۃ جدیر

آپ کی پریشانیوں کا حال سن کر فقیر کا دل بھی پریشان ہوا۔ ہر روز آپ کے  
حق میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو چاہئے کہ مقدمے کی پیشی کے وقت ہمارے حضرات  
کرام رضوان اللہ علیہم کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے وسیلے سے درگاہ رب العزت میں  
طالب امداد ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔

بس اپنے معاملے کو حاکم اصلی و قادر مطلق کے حوالے کریں اور اسی ذات  
پاک کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرات کرام کی برکات سے حاسدوں اور  
بدخواہوں کو بلا میں مبتلا کرے گا۔ اور جناب کو دشمنوں کے شر سے بالکل خلاصی عطا  
فرمائے گا۔

بالیٰ والہ الامجاد علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات

فقیر کے لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے۔ والسلام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

## مکتوب ۱۲

بنام مولوی حسین علی صاحب

مصائب کے وقت صبر و تحمل سے کام لینے اور

خدا پر مکمل بھروسہ رکھنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

فیض مآب محمد نصاب مخدومی مکرمی جناب مولوی حسین علی صاحب (اوصلہ اللہ تعالیٰ الی غایۃ مایتمناہ) کی خدمت میں فقیر حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات مسنونہ عرض ہے کہ فقیر تاحال مع جمیع متعلقین خیریت سے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت مطہرہ علی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام و الختہ پر سلامتی و استقامت عطا فرمائے۔

جناب کا مکتوب گرامی باران کے ہاتھ موصول ہو کر غائبانہ توجہ کا باعث ہوا،

حالات ما فیہا سے آگاہی ہوئی۔ جناب من

”بلائے درد منداں از درد یواری آید“

اپنے اصلی کام یعنی اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور بدخواہوں کے حالات کو حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ بسر ہم الاقدس کے سپرد کر دیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ جو مصیبت زدوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے وہ خود اپنی جڑ کاٹتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہیچ قوے را خدا رسوا نہ کرد

تا دل مرد خدا نآ مد برد

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں!

اشد البلاء علی الانبیاء ثم الا ولیا ثم الاتقیاء ثم الا مثل

بالا مثل

”سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں۔ پھر اولیا

کو پھر اتقیاء (پرہیزگاروں) کو پھر جو ان کی مثل اور ان کی مثل ہو،

یہ سب بلائیں ایک طرح کی آزمائشیں ہیں۔ کوئی شہسوار ان آزمائشوں کے

بغیر اپنے مطلب کو نہیں پہنچا، اور نہ کوئی شہبازان جالوں سے آزاد ہو کر وطن مالوف تک

پہنچا ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ اس میدان میں بہت سے شہسوار اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ

کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں عاجز و ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ ہر وقت اور ہر گھڑی

توجہ باطنی سے فارغ نہ ہوں۔

جن واقعات سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے وہ سب فاعل حقیقی کی طرف سے

ہیں ان پر خوش اور راضی رہیں۔

اوبدو زد خرقتہ درویش را

اوبدلہامی نماید خویش را

قل کل من عند اللہ

یعنی جو کچھ بھی اس دنیا و مافیہا میں ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی

سے ناراض ہونا اور اس سے بدلہ لینا بندگی کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ اس مصرعے کے

مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد را حش بسیار باد

یعنی جو ہمیں رنج پہنچاتا ہے خدا اس کو زیادہ راحت پہنچائے۔

فقیر آپ کے لئے دعا کرتا رہتا ہے اور اپنی غائبانہ توجہات سے کسی وقت بھی

غافل نہیں۔ ملا بار ان کی تربیت آپ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ان کو خوب توجہات دیا

کریں تاکہ خداوند کریم ان کو مقامات عالیہ اور حالات عظیمہ کے زیادہ سے زیادہ ثمرات



سے مشرف فرمائے۔

مقامات کی بشارت بڑے غور و خوض کے بعد دینی چاہئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بطور انعکاس پیر کے باطن سے مرید کے باطن میں اگلے مقام کے حالات درخشاں ہونے لگتے ہیں اور مرید اپنے آپ کو ان حالات سے متصف پاتا ہے کیونکہ ہمارا طریقہ انعکاسی ہے۔ غرض کہ جس طرح بھی ہو مقامات کی بشارت دینے میں بڑے تامل سے کام لیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ہزار نکتہ باریک تر زمو ایجا است

نہ ہر کہ سر بتر اشد قلندری دارد

اس راہ سلوک میں بال سے بھی زیادہ باریک لا تعداد نکلتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ

لینا چاہئے کہ ہر کس و ناکس بال منڈا کر قلندر بن جاتا ہے۔

خداوند کریم نے اپنے بزرگان دین قدس اللہ اسرارہم کی برکت سے بزرگوں

کی امانت آپ کے سپرد کی ہے۔ پس بے حد کوشش، عرق ریزی اور جانفشانی کے بعد اس

امانت کو کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہئے جو اس بار امانت کا اہل ہو تاکہ آپ کو

سعادت دارین نصیب ہو۔ قصہ 'عشق کی کوئی حد نہیں'

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

غم دل کا حال آپ کے سامنے مختصر بیان کیا ہے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ

کہیں آپ کا دل بھی سن کر رنجیدہ نہ ہو جائے ورنہ کہنا تو بہت کچھ تھا۔

اس فقیر کو دعاء حسن خاتمہ سے فراموش نہ فرمائیں۔ اور فقیر کو اپنا دعا گو اور

اپنا متوجہ تصور فرمائیں۔ دعا فرماتے رہا کریں کہ اللہ شریعت مطہرہ پر استقامت نصیب

فرمائے۔

والسلام خیر ختام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

## مکتوب ۱۳

بنام جناب مولوی حسین علی صاحب

## دعاؤں کے بارے میں!

جناب مستطاب محامد نصاب والا مناقب اعزی و اُستادی جناب مولوی صاحب اوام اللہ بقاء و رفع اللہ درجاتہ، نسلاً بعد نسل الی یوم التناذ فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین کی طرف سے بعد تسلیمات عرض ہے کہ آپ کا نوازش نامہ موصول ہوا، رنجیدہ دل کو مسرت حاصل ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے ہمیں خوش کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر الجزاء و اوصلک اللہ تعالیٰ الی عالیہ۔۔۔ تمناہ۔

جناب نے تحریر فرمایا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جناب من افغانی زبان میں مثل مشہور ہے ”کہ خدا مجھے بھلا دے اگر میں تجھے بھلا دوں“۔ ہمارے حضرات کبار قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہم الاقدس کا ہر ایک خادم مجھے بسرہ و چشم منظور ہے۔ جو چیز ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ فقیر کے حق میں خاتمہ بالخیر کے لئے دعا فرماتے رہیں۔

والسلام خیر ختام

فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین غفی عنہ



## مکتوب ۱۴

بنام جناب مولوی حسین علی صاحب

کوئی دم غافل نہ ہونے اور حقیقت احمدی

کے سبق کے بارے میں

جناب محمد نصاب مستطاب استادیم مولوی صاحب ادام اللہ بقاء و فیضانہ۔ فقیر  
حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات و بے غایات تعظیمات کے بعد  
عرض ہے

از ہر چہ میرو دشمن دوست خوش تراست  
آپ کا نوازش نامہ نیک ساعت میں موصول ہو کر باعث عز و شرف ہوا۔ بے  
حد فرحت حاصل ہوئی۔ جزاک اللہ تعالیٰ عنایہ الخیر الجزا۔ الحمد للہ فقیر بمع جمع متعلقین خیر و  
عافیت سے ہے۔ آپ کی خیریت خداوند کریم سے مدام مطلوب ہے  
الحمد لله على كل حال و نعوذ بالله من اهل النار  
ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ خدا ہمیں دوزخیوں کی صحبت سے  
بچائے۔

زندگی چند روزہ ہے جو گزر جائے گی۔ خداوند کریم قیامت کے دن میدان  
حشر میں محروم نہ فرمائے۔

بحرمة النبی وآلہ الامجاد علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام  
حضرت خواجہ خواجگان شاہ غلام علی صاحب مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے  
ملفوظات میں فرماتے ہیں۔



”جو مشغول ہے وہ مقبول ہے۔ اور جو غافل ہے وہ مقبول کیسے ہو سکتا ہے۔“ آپ نے یہ شعر فرمایا ہے۔

ہر آنکہ غافل از حق یک زمانت  
در آدم کافر است اما نہانت  
یعنی جو دم غافل وہی دم کافر۔

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

عرصہ تیس سال سے خاقانی کو اس بات کی تحقیق ہو گئی ہے کہ اللہ کی یاد کا

ایک لمحہ سلیمانی بادشاہت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جو کچھ فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیں، معاملہ بہت باریک ہے۔ فقیر کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے اور شریعت مقدسہ پر ثابت قدم رکھے۔

آپ نے مبلغ چھ روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائے تھے وہ پہنچ گئے ہیں۔

آپ نے اس قدر تکلیف کیوں فرمائی۔ آپ فی الحال حقیقت احمدی کا مراقبہ کریں اور فقیر کو اپنا دعا گو تصور کریں۔

فقط والسلام

علی من اتبع الهدی



## بچوں کو نماز کی تاکید

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو جب کہ وہ سات برس کے ہوں، اور نماز (کے چھوڑنے) پر ان کو مارو جب کہ ان کی عمر دس سال کی ہو جائے اور ان کو الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔“ (ابوداؤد)

## مکتوب ۱۵

بنام سید محمد شاہ صاحب

## قاضی کلیم اللہ صاحب کو دوبارہ

### بُلانے کے مشورہ کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ.

فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات و دعوات رضیہ و شافیہ کے بعد جناب فیض مآب کمالات اکتساب شرافت و سیادت پناہ سید محمد شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ جناب مولوی گل محمد صاحب کی اجازت کے متعلق آپ نے مشورہ طلب فرمایا ہے مخدوم فقیر کا مشورہ ہے کہ قاضی کلیم اللہ صاحب نے سلطان ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ بہت محنت کی ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب استعداد ہو گیا ہے اور اُستاد و شاگرد کے درمیان ایک قسم کی مناسبت اور محبت اور اتحاد کے بغیر تعلیم و تعلم کا سلسلہ بہت مشکل سے جاری ہوتا ہے۔ اسلئے قاضی صاحب کو اپنی جگہ پر بلائیں تاکہ تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھے اور ہفتہ عشرہ کے بعد گھر کی خبر گیری کے لئے چلا جایا کرے اور پھر واپس آکر تعلیم دیا کرے۔ اگر ہمیشہ اس طریقہ کار کی پابندی کرتے رہے تو پھر آپ کا اور قاضی صاحب دونوں کا کام سرانجام ہوتا رہے گا۔

اگر میرے مشورہ سے آپ کو اتفاق نہ ہو تو واپسی اطلاع سے سرفراز فرمائیں تاکہ پھر مولوی گل محمد کو خط لکھ دیا جائے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ آپ کے خدام کسی کو آپ کی خانقاہ میں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اس سے پیشتر یہی مولوی صاحب آخر تنگ آکر اور خفا ہو کر یہاں سے گئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی مرضی مبارک ہو اس سے مطلع فرمائیں۔ فقیر دعا گو ہے۔

والسلام خیر ختام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## پنج وقتہ نمازوں کی مثال

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ وقت نہائے کیا اُس پر کچھ میل باقی رہے گی؟“ صحابہؓ نے عرض کیا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی مثال ہے پنج وقتہ نمازوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطائیں معاف کرتا ہے۔“ (بخاری)



## مکتوب ۱۶

بنام جناب مولوی سلطان شاہ صاحب

قلب مطمئن کے مقابلے میں طلب معاش

کی فکر بے سود ہے انسان کو بلند ہمت

ہونا چاہئے وغیرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجھی جناب مولوی سلطان شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ سلام مسنون کے بعد معلوم ہو کہ یہاں کے حالات حمد کے لائق ہیں۔ بارگاہ ایزدی سے آپ کی خیر و عافیت چاہتا ہوں۔ تعجب کا مقام ہے کہ علماء اور طلبا کو ہر وقت معاش کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ اور اسی کی طلب میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کریں جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم

یعنی اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو ہم اپنی نعمتوں سے تم کو زیادہ سے زیادہ مالا مال کر دیں گے۔ بہر حال آئندہ بھی طلب معاش کے خیال سے کسی قسم کا تذبذب و تردد نہ کیجئے۔

ہمت بلند دار کہ نزد خدا و خلق

باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

ہمیشہ بلند ہمتی سے کام لو کیونکہ خدا و خلق کے نزدیک انسان کا اعتبار اس کی

ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی فقیر ہر وقت دعا گو ہے۔

والسلام خیر ختام

فقیر محمد سراج الدین

## مکتوب ۱۷

بنام حاجی قلندر خاں صاحب

## محمد جان و محمد بہاء الدین کے حق میں

### دعاؤں کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

بہ جناب مستطاب محمد نصاب مکرئی جناب حاجی قلندر خاں صاحب سلمہ الواہب من الحوادث والمصائب، فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین کی طرف سے تسلیمات و دعوات ترقیات کے بعد معلوم ہو کہ یہاں کے حالات لائق حمد قادر ذوالجلال ہیں۔ آپ کی خیر و عافیت خداوند کریم سے چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ نوازش نامہ موصول ہوا جس میں آپ نے عزیزی محمد جان کے شدت مرض کے حالات سے آگاہ کیا ہے اور عزیزی محمد بہاء الدین کے احوال دریافت فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ برخوردار محمد جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس دنیاوی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے اور اس کو شفا عاجلہ و صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس کے والدین کو زندہ سلامت رکھے اور اس کو اپنی زندگی سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔

دوسری عرض یہ ہے کہ حضرت سید المرسلین و آلہ الطہیین الطاہرین کے طفیل میں عزیزی محمد بہاء الدین کے مرض میں افاقہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرات کرام و مشائخ عظام کے صدقے میں اس کو صحت و عافیت کلی عطا فرمائے، فقیر کو ہر حال

میں دعا گو تصور فرمائیں۔ برخورداران اور جناب میرا صاحب، امیر شاہ صاحب۔ میاں  
حق چراغ و قمر الدین چکڑالوی و کل اہل خانقاہ شریف کی خدمت میں سلام مسنون۔ نیز  
بخدمت جناب مولوی محمد عیسیٰ خان صاحب و جمیع متعلقین کو فقیر کی طرف سے تسلیمات  
عرض کریں۔

فقیر حقیر محمد سراج الدین غفی عنہ،



## ایمان کی گواہی

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا ”جب تم کسی شخص کو مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتے دیکھو  
تو تم اس کے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ  
کی مساجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لایا  
ہو۔“ (ترمذی)



## مکتوب ۱۸

بنام جناب مولوی عیسیٰ خان صاحب

## احباب کے حالات و نجی معاملات

### کے بارے میں

جناب مکرمی مولوی عیسیٰ خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین کی طرف سے بعد سلام مسنونہ معلوم ہو کہ کافی عرصہ سے جناب نے اپنی خیر و عافیت سے مطلع نہیں فرمایا۔ جناب کو چاہئے کہ اپنی عادت کی مخالفت کرتے ہوئے کچھ لکھیں۔ حاجی قادر بخش صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ مولوی صاحب سنگ مٹانہ کے علاج کی غرض سے ڈیرہ میں مقیم ہیں۔ اس کے متعلق تفصیلی معلومات بہم پہنچائیں اور بتائیں کہ جناب حاجی صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ بنوں کس لئے گئے تھے۔ خان صاحب کی نمبرداری کی عرضی کا کیا حشر ہوا۔ اس جگہ کے مفصل حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔ جناب من افسوس ہے کہ آپ نے ابھی تک بندوق اور تلوار کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا۔ کوؤں اور لومڑیوں کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اب کسی چیز کو بھی پاک نہیں چھوڑا۔ یہ وبال آپ کے ذمے ہو گا۔ کوؤں کی کثرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا خانقاہ شریف ان کا مسکن بن گیا ہے اور رات کو یہاں لومڑیوں کی حکومت ہوتی ہے۔

ان اطراف میں بارش نہیں ہوئی ہے۔ عزیزم نور چشمی محمد بہاء الدین کو سات روز سے بوقت عشا ہر روز دو چھٹانک خون سینہ سے منہ کے ذریعہ گرتا ہے اب تک تو

خون تھوک کے ساتھ آتا تھا اور درمیان میں ایک دفعہ تو خون بہت ہی آیا تھا۔ پانچ دن سے مولوی عطاء محمد صاحب حکیم مولوی اللہ بخش صاحب کوئلہ جام والے کو لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ ہلکا ہلکا بخار بھی رہتا ہے۔ خداوند کریم اپنے فضل سے ان کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے، بالنبی وآلہ الامجاد۔

بندوق کا لائسنس اگر حاصل کر لیا ہے تو باقی سامان بار دو ٹوپی وغیرہ جو حقداد خاں صاحب کے ہاں کسی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے لے لیں اور ان سب کو کسی آنے جانے والے کے ہاتھ ارسال کر دیں۔ میرا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا پہاڑی بکرے کی کھال والا مصلا ملا صدرو کے پاس ہو گا وہ بھی کسی کے ہاتھ روانہ فرمادیں۔ بندوق کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی خط جناب مولوی صاحب کا آپ کے پاس آیا ہو تو وہ بھی روانہ کر دیں۔ کچلے کی گولیوں کا آپ نے کیا کیا؟

خط لکھ چکا تھا کہ آپ کا نواش نامہ ملا۔ بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا۔ نور چشم کی بیماری موجب پریشانی ہوئی۔ آپ نے نور چشم کے متعلق تفصیل سے نہیں لکھا جو مزید پریشانی کا سبب ہوا۔ اپنے مفصل حالات سے جلد مطلع فرمائیں سخت انتظار ہے۔ نور چشم محمد علاؤ الدین کو اس مرض سے شفا حاصل ہو گئی ہے۔ فی الحال لمبی کھانسی میں مبتلا ہے۔ آج کل خانقاہ شریف میں صفاوی تپ کا زور ہے۔ گرمی بھی حد درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ بارش نہیں ہوئی۔ گرم ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔

حاجی عبدالکریم کا خط آیا تھا اس میں لکھا ہے کہ ہم نے حج بڑی خیر و خوبی کے ساتھ ادا کیا، لیکن سخت وبا پھوٹ پڑی تھی۔ ہمارے رفقاء میں سے بھی تین اشخاص کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب اور ان کے والد ماجد خیر و عافیت سے رہے، حاجی صاحب نے لکھا تھا کہ آپ کے فرمانے کے مطابق پندرہ روپے اکبر علی شاہ کو دیدیئے ہیں کہ وہ میرے گھر پہنچادیں اور وہاں وہ جو حاجی صاحب نے زمین ہمارے نام چڑھائی ہے اس کے حالات وغیرہ بھی دریافت کریں۔ حاجی صاحب نے بھی لکھا تھا کہ تم میرے بعد جانا اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ حاجی صاحب اور مولوی صاحب اور باقی

رفقا مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد پہنچ جائیں گے۔ آپ ان کے گھر والوں کو کسی آنے جانے والے کے ذریعہ ان تمام حالات سے آگاہ کر دیں۔ اور فقیر کی طرف سے بھی ان کے حالات دریافت کر لیں۔

فقط والسلام، مورخہ ۲۰ صفر المظفر ۱۳۲۰ھ المقدس،

فقیر محمد سراج الدین غنی عنہ



## باقی رہنے والے اعمال

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین قسم کے عمل باقی رہ جاتے ہیں: ۱۔ صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ و خیرات کی ایسی عام شکل جس سے لوگ طویل عرصہ تک فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ۲۔ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ ۳۔ ایسی نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے۔“ (مسلم)



## مکتوب ۱۹

بنام مولوی حسین علی صاحب

## مصائب و بلیات میں صبر کرنے اور مختلف

## کتابوں کے دستیاب ہونے کے بارے میں

جناب مستطاب محمد نصاب مکرمی و مخدومی مولانا حسین علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ من جمیع الحوادث۔ فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و تعظیمات عرض ہے کہ آپ کا نامہ گرامی مبارک وقت اور نیک ساعت میں موصول ہوا۔ جزاک اللہ تعالیٰ عنایہ الخیر الجزاء۔ الحمد لله و المنۃ کہ فقیر مع جمیع متعلقین اس وقت تک بخیر و عافیت ہے۔ آپ کی خیریت و استقامت کے لئے بھی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں۔

عرض یہ ہے کہ اس علاقہ میں بھی شدت امراض کی کثرت ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک اموات کے متعلق سننے میں نہیں آیا۔ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی امراض و بلیات میں مبتلا ہوتا ہے اور شدت درد اور تکلیف کی وجہ سے آہ و بکا کرتا ہے تو اس وقت حق تعالیٰ ملائکہ عظام کو فرماتا ہے۔

اشدوا بلاءہ فانی احب بکاءہ

یعنی اس کے مصائب اور بلیات میں اور اضافہ کر دو کیونکہ مجھے

اس کا رونا بہت ہی پیارا لگتا ہے۔

محبوب ناز میں اپنے عاشق کو مختلف بلاؤں اور رنج و آلام میں مبتلا کر کے اس کا

امتحان لیتا ہے۔ عاشق جتنی بھی گریہ وزاری کرتا ہے محبوب کو اسی قدر مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ عاشق جتنا غمگین و مہجور ہے اتنا ہی محبوب شاد و مسرور ہے۔ عاشق شیدا کی رقیق القلمی معشوق رعنا کے لئے فرحت ہے۔

چنداں کہ طپید بسمل ما

خنداں تر گشت قاتل ما

یعنی جتنا زیادہ بسل تڑپتا تھا اتنا ہی زیادہ ہمارا قاتل ہنستا تھا۔

ان دنوں خدا کی مہربانی سے چند کتابیں ہاتھ لگی ہیں اور ابھی زیادہ ملنے کی امید ہے۔ رضی شرح شافیہ، سراج المنیر شرح جامع الصغیر۔ کنز الحقائق وغیرہ کتابیں چند دن میں پہنچ جائیں گی، تلخیص الحواشی سیوطی علی صحاح ستہ، مجلۃ الاحکام، مجمع الانہر شرح ملتقى البحر، فتاویٰ تنقیح حامدہ، کشف الغمۃ، المملل والنحل، حیوۃ الحیوان، دار الاحکام شرح غزیر الاحکام۔ نسحات الاسرار، شرح منار لابن عابدین، فتاویٰ خیرہ، یہ تمام کتب مصری مطبع کی طلب کی گئی ہیں۔ چند دنوں میں مل جائیں گی۔ فقیر کو دعاء حسن خاتمہ سے یاد فرمائیں۔

زیادہ دعوات معروض والسلام

فقط فقیر حقیر لاشیٰ

محمد سراج الدین عفی عنہ



## مکتوب ۲۰

بنام سید محمد شاہ صاحب

## پنج وقتہ نمازوں اور ذکر و اذکار

### و استغفار کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

سیادت و سعادت پناہ شرافت و نجابت دستگاہ شاہ سید محمد شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات و دعوات مسنونہ کے بعد معلوم ہو کہ جناب کا محبت نامہ موصول ہوا۔ آپ کی اور جمیع متعلقین کی خیر و عافیت سے آگاہی ہوئی۔ دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو صحیح سلامت اور اپنی ذات اقدس کی محبت پر استقامت عطا فرمائے، بحرمتہ النون والصاد بالنبی وآلہ الامجاد علیہ و علیہم الصلوٰت والتحیات۔ فقیر کو ہمیشہ اپنا دعاء گو تصور کریں۔ فقیر کو بھی ازراہ نوازش اپنی دعاؤں میں یاد شاد فرماتے رہا کریں۔ شب و روز اپنے ذکر اور پنج گانہ نمازوں پر سختی سے پابند رہیں اور شریعت مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر استقامت سے کام لیں۔ نماز اشراق اور اذان اور ایک تسبیح استغفار فجر کی اذان سے پہلے اور ایک تسبیح عصر کے حلقے کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”میں دن میں ستر ۷۰ مرتبہ استغفار پڑھا کرتا ہوں“

دوسری روایت میں ہے!



”سو مرتبہ استغفار پڑھا کرتا ہوں۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا!

”جس نے خداوند تعالیٰ سے مغفرت چاہی تو خدا تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔“

دو وقت حلقہ بھی ضرور کیا کریں۔ پوشیدہ طور پر صبح و شام نہایت عجز و انکساری سے گریہ وزاری کیا کریں اور اپنے اعمال کے فکر میں پشیمان اور غمگین رہا کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر اور غمگین رہا کرتے تھے۔ فقیر نقشبندیوں کے لئے سر اسرنگ و عار ہے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین عفی عنہ،



## بہترین شخص

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، لوگوں میں سے کون بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بشارت ہے اُس شخص کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا۔“ اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو دنیا کو اس حال میں چھوڑے کہ تو اللہ کی یاد میں رطب اللسان ہو۔“ (احمد)

## مکتوب ۲۱

بنام محمد عیسیٰ خاں صاحب

حضرات کے مکتوبات شریف و ملفوظات عالیہ

بذریعہ پارسل طلب کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

اخوی و اعزی ارشدی عزیز از جان جناب مولانا مولوی محمد عیسیٰ خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین غنی عنہ کی طرف سے سلام مسنونہ و دعوات ترقی درجات مشونہ کے بعد معلوم ہو کہ فقیر الحمد للہ بمع جمع متعلقین خیر و عافیت سے ہے۔ درگاہ رب العزت سے آپ کی خیر و عافیت چاہتا ہوں۔ آپ نے جو خبر بوزے روانہ کئے تھے وہ پہنچ گئے۔ دعا گوئی اور خوشنودی کا باعث ہوئے۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ جب آپ خیریت سے گھر پہنچ جائیں تو دو تین دن قیام کرنے کے بعد خانقاہ شریف ضرور بالضرور تشریف لے جائیں اور ایک چھوٹا صندوقچہ جس پر چڑا لگا ہوا ہے مقفل ہو یا غیر مقفل، بہر صورت کسی نہ کسی طرح اس میں سے جمع حضرات کرام کے مکتوبات شریف لے کر کپڑے میں لپیٹ کر موم جامہ میں بند کر کے بیرنگ پارسل کر دیں تاکہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اور ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ والد بزرگوار (میری جان و دل ان پر نثار) کے جتنے خطوط خواہ حاجی قلندر خاں کے نام ہوں یا آپ کے وہ بھی ارسال فرمائیں۔

نیز یہ بھی واضح رہے کہ اس صندوقچے میں مکتوبات حضرت شاہ احمد سعید صاحب، حضرت قبلہ حاجی صاحب، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا نعیم اللہ صاحب بہراپچی اور دوسرے حضرات مجددیہ کے مکتوبات شریفہ ہیں وہ سب ارسال فرمائیں، اور باقی چار نسخے مکتوبات حضرت قبلہ حاجی صاحب کتب تصوف میں موجود ہیں اور نیز ملفوظات حضرت قبلہ حاجی صاحب بہ چار جلد مکتوبات اور ملفوظات کے بھی لے کر ارسال فرمائیں۔ مکرر عرض ہے کہ یہ سب مذکورہ بالا کاغذات بذریعہ پارسل بیرنگ ارسال فرمائیں تاکہ ضائع ہونے کا کوئی احتمال نہ رہے۔

فقط والسلام خیر ختام

فقیر حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## بخیل اور سخی کی مثال

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو شخصوں کی سی ہے جنہوں نے لوہے کی زد ہیں پہنی ہوئی ہیں، ان دونوں کے ہاتھ سینے اور حلق تک جکڑے ہوئے ہیں۔ فیاض انسان جب صدقہ دیتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہو جاتی ہے اور بخیل جب صدقہ دینے کا خیال کرتا ہے تو وہ زرہ اور تنگ ہو جاتی ہے اور زرہ کا ہر حلقہ (چھلا) اپنی جگہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ (مسلم)



## مکتوب ۲۲

بنام جناب مولوی حسین علی صاحب

## مقامات مقدسہ پر حاضری کے بارے میں

مخدومی و مکرمی جناب مولوی حسین علی صاحب بعد حمد و صلوة و ترسیل  
تسلیمات و دعوات معلوم ہو کہ یہاں پر فقیر بمع متعلقین خیر و عافیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ  
سے دعا ہے کہ آپ کو بھی سلامتی و استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔

عرض یہ ہے کہ ہم سب سر ہند شریف سے روانہ ہو کر جمعہ کی رات کو پارہ  
بجے دہلی میں داخل ہوئے۔ رفقاء کو یہاں چھوڑ کر اتوار کے روز محمد قبول ملا صدرو،  
مولوی غلام حسین و قمر الدین کے ہمراہ یسرہ روانہ ہوئے۔ سوموار کے دن جناب  
مولوی صاحب و نورچشمان محمد معصوم و محمد صادق کے ہمراہ دہلی واپس آگیا۔ اس کے بعد  
جناب مولوی صاحب، نورچشمان اور مولوی غلام حسین صاحب کو دہلی چھوڑ کر بدھ کے  
روز بمبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمعہ کے روز بمبئی پہنچ گئے۔ ٹکٹ خرید لئے ہیں رفقاء  
کے ٹکٹ پر پندرہ پندرہ روپے خرچ ہوئے اور فقیر کے ٹکٹ پر پچھتر روپے خرچ  
ہوئے، ۲۶ رمضان المبارک بدھ کے روز روانہ ہو جائیں گے۔

انشاء اللہ فقیر مقامات مقدسہ پر آپ کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں کرے  
گا۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔ جمیع احباب اور خصوصاً مولوی احمد خاں اور قمر الدین  
کی طرف سے سلام مسنون قبول ہو۔

جب موسیٰ زئی زیارت کے لئے تشریف لے جائیں تو فقیر کی جانب سے عجز و  
انکساری کے ساتھ تسلیم و نیاز پیش کرتے ہوئے فقیر کی سلامتی اور استقامت کے لئے  
التجا کریں اور اپنے خاص اوقات میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خداوند تعالیٰ ان دعاؤں کو  
قبول فرمائے گا۔ والسلام خیر ختام، فقیر حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

بقلم خود

## مکتوب ۲۳

بنام سلطان شاہ صاحب

## اصلی مقصد شریعت پر استقامت

اور یادِ مولیٰ ہے

مشفق و مکرمی سیادت پناہ سلطان شاہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عنفی عنہ کی طرف سے تسلیمات و دعوات مسنونہ کے بعد معلوم ہو کہ فقیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔

آپ کا نوازش نامہ موصول ہو کر کاشفِ احوال ہوا۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کتابیں آپ نے ختم کر لی ہیں۔ بڑی مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں جلد کامیابی عطا فرمائے۔ یہ بڑی دولت عظمیٰ ہے کیونکہ شریعت کی استقامت کا حصول اسی پر مرتب ہے۔ تعلیم کے شغل میں بھی ذکر سے غافل نہ رہا کریں۔ جب آپ کو سبق و مطالعہ سے فرصت ملے تو ذکر و یادِ خدا میں مشغول رہا کریں۔ اُمید قوی ہے کہ وساوس و خطرات سے نجات حاصل ہوگی۔

فقیر محمد سراج الدین عنفی عنہ



## مکتوب ۲۴

بنام امان اللہ خاں صاحب و سیف اللہ خاں صاحب

حرکت قلب یاد دوسرے آثار کا کوئی

اعتبار نہیں اصل مقصد حضور قلبی کے

ساتھ اللہ کی یاد ہے

محبت الفقراء والعلماء امان اللہ خاں صاحب و سیف اللہ خاں صاحب سلمہما اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ معلوم ہو کہ فقیر بمع متعلقین خیریت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ اور ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔

آپ کا نوازش نامہ شرف صدور لا کر باعث مسرت ہوا۔ آپ صاحبان نے حرکت قلبی کے متعلق تحریر کیا تھا۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ اصلی مقصد یہ ہے کہ حضور قلبی کے ساتھ اللہ کی یاد کی جائے۔ حرکت قلب یاد دوسرے آثار کا کوئی اعتبار نہیں۔ بس ہمارا کام تو یہ ہے کہ اپنے عارضی اوقات کو عبادات و اذکار و افکار سے معمور رکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حضرات کبار کی برکت سے عظیم ثمرات و برکات حاصل ہوں گی۔ فقیر کو ہمیشہ دعا گو تصور کریں۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ





## مکتوب ۲۵

بنام خان رب نواز خان صاحب

## خطرات و وساوس کے دور کرنے کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

صداقت و اختصاص نشان محبت و اخلاص عنوان مکرمی خان رب نواز خاں صاحب سلمہ ربہ، فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے سلام مسنون و دعوات مشونہ کے بعد معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ ہر طرح خیریت ہے، آپ کی سلامتی و خیریت کے لئے درگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں۔

آپ کا محبت نامہ موصول ہو کر کاشفِ احوال ہوا۔ مزید دعا کی گئی ہے کہ خداوند کریم آپ کو جناب حضرات گرامی قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہم کے طفیل میں زمانے کے حوادث سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ کو اپنے مقاصد شریفہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ ”انہ قریب مجیب“ فقیر کو ہر حال میں اپنا دعا گو اور متوجہ تصور فرمائیں۔

خطرات اور وساوس کے دفع کرنے کے لئے یہ عرض ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کریں۔ کل خطروں کو تصور کے ذریعے کلمہ لا کے نیچے لائیں لاکھتے وقت خیال سے ان کی نفی کریں۔ بے فکر رہیں آپ پر خداوند تعالیٰ کی مہربانی اور عنایات بہت ہیں۔ خیالات فاسدہ کو اپنے اندر جگہ نہ دیں۔ خداوند کریم ملک کو آباد کرے گا۔ اور قرض سے نجات دلائے گا۔ پریشانی کے اسباب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ ان کے دفعیہ کا مفصل طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہوں۔ حواس اور آنکھوں کو بند کریں۔ سانس کو ناف کے نیچے بند کریں اور کلمہ لا کو ناف سے اوپر کی طرف کھینچیں اور کلمہ الہ کو دائیں کندھے کے برابر نیچے لائیں اور الا اللہ کی ضرب اپنے دل پر اس زور سے لگائیں کہ اس کی حرارت جمیع اعضا کو پہنچے اور طاق عدد ملحوظ رہے۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

## مکتوب ۲۶

بنام قاضی عبدالغفار صاحب

## بیماری کی حالت میں جس طرح آسانی ہو

## عبادت کرنے کے بیان میں

بعد از تبلیغ دعوات اور تسلیمات مسنونہ جناب مکرمی قاضی عبدالغفار صاحب کو معلوم ہو کہ فقیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح خیریت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔

آپ کے گرامی نامے لگا تار پہنچتے رہے۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوتی رہی۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کمر کے درد کی وجہ سے بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتا بلکہ لیٹ کر ذکر کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر و فکر کی مختلف ہیئتوں کے متعلق بھی استفسار فرمایا ہے۔ مجھی اس کے متعلق یہ عرض ہے جس کام میں تکلیف مالا یطاق پیش آئے اس کو چھوڑ دیا کریں۔ جس صورت میں آسانی لذت و ذوق محسوس ہو اسی کو اختیار کریں اور اسی پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ہے!

لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اصل مقصد ذوق و شوق ہے۔ پس یہ ذوق و شوق جس صورت میں بھی آپ کو میسر آسکے وہی بہتر، لذیذ اور پسندیدہ ہے۔ بنیت کی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ فقیر آپ کے لئے تمام امور میں کامیابی

کی دعا کرتا ہے۔ عزیزم نجم الدین وغیرہ مخلصین کو دعوات اور تسلیمات موصول ہوں۔ ولسلام،

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

۱۹/رجب ۱۳۲۶ھ از خانقاہ شریف سون



## دلوں کا زنگ

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑے۔“ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! پھر دل کو کیسے مانجھا جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کثرت سے موت کو یاد کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔“ (بیہقی)



## مکتوب ۲۷

بنام حسین علی صاحب

## اپنی کم مائیگی اور عنایات ربانی کے بارے میں

جناب مستطاب محمد نصاب مخدومی و استاذی مولانا حسین علی صاحب دعا ہے  
اللہ تعالیٰ آپ کو جادہ شریعت المصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر سلامتی و استقامت  
عطا فرمائے۔

جناب من آپ کا نوازش نامہ جس میں مختلف حالات درج ہیں موصول ہو کر  
باعث عز و شرف ہوا۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ الحمد للہ ہمارے حضرات کرام  
قدسنا اللہ باسرار ہم الاعلام کے برکات روز بروز ترقی پذیر ہیں۔ آپ کی صورت حال  
بھی یہی ہے، اور اس فقیر کو جو محض شر اور نقصان کا نمونہ ہے اپنی کریمانہ عنایات سے  
نوازا کریں اور ہر وقت اپنی نظر کیمیا اثر میں رکھا کریں۔ فقیر چونکہ محض نالائق اور تباہ کار  
بلکہ اسلاف کے لئے ننگ و عار ہے تو پھر کیسے اُمید کی جاسکتی ہے کہ فقیر سے کوئی ایسا عمل  
سرزد ہو جو خوشنودی اور نیک نامی کا موجب ہو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فقیر کا وجود تو  
صاحب الطریقہ رضوان اللہ علیہ کے لئے بدنامی اور ناموسی کا سبب ہے۔ لیکن بحکم آیت  
کریمہ! فاما بنعمت ربك فحدث کچھ لکھا جاتا ہے۔

الحمد للہ فقیر نے حضرات کرام کا دامن پکڑا ہے جن کے حق میں اسلاف نے  
فرمایا ہے!

لا یخیب انیسہم ولا یشقی جلیسہم

یعنی ان کا دوست کبھی خسارہ میں نہیں ہوتا اور ان کی مجلس میں  
بیٹھنے والا کبھی بد بخت نہیں ہو سکتا۔

ان کا دامن پکڑنا بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

باقی یہ کہ اس وقت حضرات کرام نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم کی نسبت مثل عقدا ناپیدا ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ان کی توجہ کی برکت سے حضور نصیب ہے اور ماسوا سے دل سرد ہے۔ فنا و بقا کے بعضے اسرار جو کہ حضرت امام ربانی غوث صمدانی کے خواص میں سے ہیں ہر وقت فقیر کے ساتھ دامن گیر ہیں اور وہ اسرار جو کمالات نبوت، کمالات رسالت اور حقائق الہیہ و حقائق انبیاء، معبودیت صرفہ، حب صرفہ، اور دائرہ لائقین سے متعلق ہیں۔ خدا کرے ہر روز ترقی پذیر رہیں۔

ایسی چیزیں درمیان میں پیش آتی ہیں کہ جن کا بیان کرنا فتنہ کا باعث ہے اور اگر بیان بھی کی جائیں تو الفاظ کہاں سے لائے جائیں۔ حضرت قبلہ کی عنایات کے قربان جاؤں۔

گر برتن من زباں شود ہر موئے

یک شکر تواز ہزار نتوانم کرد

یعنی اگر میرے ہر بال کو قوت گویائی عطا فرمادی جائے تو اس صورت میں بھی میں ہزار شکر میں سے تیرا ایک شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ فقیر نے چند کلمات لکھے ہیں خفا نہ ہوں۔ فقیر کے حق میں خاتمہ بالخیر کے لئے دعا فرماتے رہیں۔ فقیر کو دعا گو تصور کریں۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذہد یتنا وھب لنا من لدنک وشددا

وصلی اللہ علی سیدنا خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ

اجمعین۔

فقیر کے پاس آج کل ان کتابوں کے اسباق شروع ہیں۔ مکتوبات امام ربانی جلد ثانی۔ مکتوبات معصومیہ جلد اول و جلد ثالث، معمولات مظہری۔ اور ہدایت الطالین۔

خانقاہ شریف کے تمام درویشوں کی طرف سے علیحدہ علیحدہ تسلیمات و نیاز قبول ہو۔

فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین عفی عنہ،

## مکتوب ۲۸

بنام سید محمد شاہ صاحب

دو وقت حلقہ کرانے اور آنے جانے والوں

کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں

جناب فیض مآب حضرت سید محمد شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین غنی عنہ کی طرف سے تسلیمات مسنونہ و دعوات مشخونہ کے بعد معلوم ہو کہ نوازش نامہ شرفِ صدور لاکر باعث مسرت ہوا۔ الحمد للہ والممتہ فقیر تاحال بفضل تعالیٰ خیر و عافیت سے ہے۔ دعا ہے کہ آپ کو اللہ جادہ شریعت العلیہ المصطفویہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام پر دائمی سلامتی و استقامت عطا فرمائے، آمین۔

سنا ہے کہ جناب نے اس سال سبق شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ملکہ کاملہ نصیب فرمائے، بالنون والصاد۔ آپ کے لئے یہ لازمی ہے کہ دو وقت حلقہ ضرور کرائیں، خاص تاکید ہے۔ اگر آپ کا سبق قضا ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن حلقہ نہ چھوڑیے۔ اپنے باقی اوقات کو بھی یاد خدا سے خالی نہ رکھیں۔ اذکار و افکار میں محکم رہیں اور استقامت کو پیش نظر رکھیں۔ جناب نے سنا ہوگا!

الاستقامة فوق الكرامة

یعنی استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔

فقیر کو اپنا دعا گو اور متوجہ تصور فرمائیں۔

ان اطراف میں بیٹھے کی وبا نہیں پھوٹی۔ تسلی رکھیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی



آخر ماہ میں انشاء اللہ زیارت کے لئے سرہند شریف جانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو اس ارادے میں کامیابی عطا فرمائے۔

بالنبی وآلہ الامجاد علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات.

ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ان کے باطنی احوال بھی دریافت کرتے رہا کریں۔ آپ خود دانا ہیں۔ میرے اور آپ کے ذمہ یہی خدمت سپرد کی گئی ہے۔

فقط والسلام مع الاکرام

فقیر حقیر محمد سراج الدین



## گناہوں کی معافی

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”جس نے اس گھر (بیت اللہ) کی زیارت کی اور فحش، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ (پاک صاف ہو کر) اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اُسے جنا تھا۔“ (مسلم)

## مکتوب ۲۹

بنام محمد حیات صاحب

## بھائی کی وفات پر تعزیت اور صبر

## کی تلقین کے بارے میں

باسمہ سبحانہ

محبت و اخلاص نشان محی محمد حیات سلمہ ربہ، بعد سلام و دعا مسنونہ معلوم ہو  
آپ کے خط کے ذریعہ آپ کے بھائی کی وفات کی خبر پہنچی۔ پڑھ کر افسوس ہوا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت و مغفرت کرے اور اپنے فضل سے جو ار  
رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور  
آپ کو سب آفات و بلیات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیشک سفر کی حالت میں ایسے  
جوان عمر کا انتقال کرنا ایک سخت مصیبت اور امتحان ہے اور اس کے علاوہ اور دوسرے  
تفکرات بھی لاحق ہیں۔ مگر بندے کے لئے اس میں بہتری ہے کہ وہ ہر حال میں صبر و  
شکر کے ساتھ رضائے مولیٰ کا طالب رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ فضل و  
احسان کا مستحق ہو۔ اگر غم و اندوہ زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو کلمہ شریف!

لا حول و لا قوۃ الا باللہ

ہر وقت ورد زبان رکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کلمہ شریف کی برکت سے تمام  
رنج و الم دفع ہو جائیں گے اور کاروبار میں کشائش ہوگی۔ فقیر آپ کے اور آپ کے  
بھائی کے حق میں دعاء خاص کرتا ہے خداوند تعالیٰ قبول فرمائے۔ والد دعا  
فقیر محمد سراج الدین غنی عنہ،

## مکتوب ۳۰

بنام ملا فیض محمد صاحب و ملا شیر محمد صاحب

## سبق شروع کرنے سے پہلے ایک

### ورد کے معمول کے بارے میں

محبت اخلاص نشان و اختصاص عنوان محبی جناب ملا فیض محمد صاحب و ملا شیر محمد صاحب حفظہما اللہ الصمد۔ فقیر حقیر لاشئ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد تسلیمات و دعوات معلوم ہو کہ الحمد للہ اس جگہ ہر طرح خیریت ہے۔ درگاہ رب العزت سے آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ آپ کا نامہ گرامی موصول ہو کر باعث مسرت و موجب دعوات اور توجہات ہوا حالات ما فیہا سے آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے جملہ دینی و دنیاوی مقاصد بر لائے۔ آپ کے لڑکے کے شوق اور توجہ کے لئے دعا کی گئی ہے، خداوند کریم آنعزیز کے سینہ کو کشادہ کرے اور علم باعمل سے آراستہ فرمائے۔ آمین ثم آمین اپنے لڑکے کو بتائیں کہ سبق اور مطالعہ شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں!

اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک

فقیر حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

از خانقاہ شریف سون





## مکتوب ۳۱

بِنا م قاضی کلیم اللہ صاحب

## ذکر کی لذت کی پروا نہ کرنے کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى.

بعد تسلیمات و دعوات مسنونہ مخلصی و عزیزی جناب قاضی کلیم اللہ صاحب کو معلوم ہو کہ آنجناب کا مکتوب محبت اسلوب موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ باعث دعوات و توجہات ہوا۔ دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو اپنے پیران کبار کے طفیل میں دن و رات چو گئی ترقی عطا فرمائے۔ اور آفاقی و انفسی دشمنوں اور حاسدوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے معارف کی لذت سے لطف اندوز فرمائے۔

آپ نے ذکر میں بے لذتی کے متعلق تحریر فرمایا تھا۔ عزیزم عرض یہ ہے کہ جس کام کو کر رہے ہو اس کو کرتے رہو یعنی ذکر میں لگے رہو لذت و بطن محسوس ہونے لگے گا۔

وبالله التوفیق ونعم الرفیق وعلیه التکلان و هو المستعان

والسلام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## مکتوب ۳۲

بنام مولوی عطا محمد صاحب

## مرد مومن کا فوت ہونا نقصان عظیم ہے

مکرمت پناہ جناب مولوی عطا محمد صاحب۔ بعد از سلام مسنون و عافیت مشغون معلوم ہو کہ جناب کا گرامی نامہ جس میں قاضی صاحب قبلہ کی تعزیت اور سرہند شریف زیارت کے لئے جانے اور فیضیاب ہونے کے متعلق تحریر تھا، موصول ہو کر موجب توجہات و دعا گوئی ہوا! جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ذی جود و جود کا اس دار فانی سے رحلت کر جانا ایک نقصان عظیم ہے۔ اس قسم کے وجود حضرات گرامی کے فیوضات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

قرنہا باید یکمرد صاحبدل شود

بایزید اندر خراسان یا اولیس اندر قرن

یعنی صدیوں کے بعد کوئی مرد مومن صاحب دل پیدا ہوتا ہے۔ جیسے خراسان میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ اور قرن میں اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔

اللہم اجرنا فی مصائبنا و عقبنا خیر امنہا - اللہم لا تحرنا اجرہ

ولا تفتنا بعدہ رضاء مولا ازہمہ اولی! امنا بقدر اللہ و سلمنا

سرہند شریف میں جو واقعات آپ کے سامنے ظہور پذیر ہوئے وہ بشارات سے تعلق رکھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ آنجناب کو دائمی استقامت و ترقیات عطا فرمائے بالنون و الصاد، فقیر کو ہر حال میں اپنا متوجہ اور دعا گو تصور فرمائیں۔ اس جگہ کے جمیع احباب کی طرف سے آپ کو سلام مسنون نیز وہاں کے جمیع احباب کو فرداً فرداً تسلیمات اور دعوات عرض کریں۔ والسلام فقیر محمد سراج الدین غنی عنہ وکان اللہ لہ، ذی قعدہ از خانقاہ شریف موسیٰ ذئی،

## مکتوب ۳۳

بنام جناب مولوی عطا محمد صاحب

## صاحبزادہ بہاء الدین کے علاج معالجے

### وانتقال پر ملال کے بارے میں

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ.

محبت و اخلاص نشان صداقت و اختصاص عنوان مخلصی جناب مولوی عطا محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشئ محمد سراج الدین کی طرف سے سلام مسنونہ و دعوات مشنونہ کے بعد معلوم ہو کہ فقیر بمع جمع لواحقین خیر و عافیت سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی و استقامت عطا فرمائے۔ آپ کا خط موصول ہو کر کاشفِ احوال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے مخلص ماہ جمادی الاول کے آخر میں اطبا کے مشورہ پر نور چشمی بہاء الدین کو تبدیل آب و ہوا کے لئے خوشاب لے گئے۔ وہاں تقریباً دس یوم قیام رہا اور چھاؤنی والے سول سر جن سے علاج بھی کرایا لیکن کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوا۔ دستوں کی اور زیادتی ہو گئی۔ جس کی وجہ سے نہایت ضعف طاری ہو گیا۔ بہر حال سینچر کی رات کو بتاریخ نو جمادی الثانی رفیقوں کے ہمراہ موسیٰ زئی واپس روانہ ہو گئے۔ اتوار کو صبح سویرے ڈیرہ اسماعیل خاں پہنچے اور جناب اعزی حقداد خاں کے مکان پر قیام کیا۔ وہاں کے ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نظر نہیں آیا۔ آخر الامر بارہ جمادی الثانی بروز منگل بوقت شام عزیزم بہاء الدین مرحوم کے انتقال کا حادثہ جانکاہ پیش آیا۔



انا لله وانا اليه راجعون

ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے خانقاہ شریف موسیٰ زئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیزم مرحوم کو حضرات کرام کے جوار میں عزیز ی محمد سیف الدین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ چند روز وہاں رہ کر فقیر تمام رفیقوں کے ہمراہ خانقاہ شریف سون واپس آ گیا۔ مخلصم مولوی سید رسول صاحب دریا خاں سے کوٹلہ رخصت ہو گئے۔ جناب من مکرمی مولوی سید رسول صاحب نے بوقت قیام بہت سی خدمات سرانجام دیں جو فقیر کی خوشنودی کا باعث ہوئیں۔ خداوند کریم آل عزیز کو اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو اپنے زمانے میں ممتاز و سرفراز فرمائے۔ بحرمۃ النبی وآلہ الامجاد

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## نماز کا مقام

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اُس کی نماز کا عدم ہے، اور جس کی نماز نہیں اُس کا دین بھی نہیں۔ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم کے اندر سر کا ہے۔“ (طبرانی)

## مکتوب ۳۴

بنام مولوی عبداللہ خاں صاحب

ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہنے اور لوگوں

کے ساتھ خلق سے پیش آنے کے بیان میں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

ابا بعد اقرارانِ محبت و اخلاص عنوانِ مکرمی جناب عبداللہ خاں صاحب حفظ اللہ تعالیٰ عن الحوادث و المصائب۔ بعد تسلیمات و دعواتِ مسنونہ فقیرِ حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عنفی عنہ کی طرف سے معلوم ہو کہ آپ کا محبت نامہ موصول ہوا۔ لوگوں سے کم ماننا جلنا۔ نظام الاوقات کے مطابق کام کرنا اور اپنے اوقات کو ذکر و اذکار سے معمور رکھنے کے حالات وغیرہ سے آگاہی ہوئی۔ پڑھ کر انتہائی مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سنتِ سنیہ مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی محبت میں روز افزوں ترقی نصیب فرمائے، بحرۃ النون والصاد و آلہ الامجاد۔

جناب نے یہ تو سنا ہوگا!

من استویٰ یوماہ فهو مغبون

یعنی جس نے اپنے دنوں وقت یعنی شب و روز کو غفلت میں گزارا

تو وہ مغبون ہے۔

اے میرے عزیز یہ زندگی چند روزہ ہے اس کو اذکار و افکار و عبادات سے

معمور رکھیں اور عبادت کے ذریعے اپنی تاریک راتوں کو منور رکھیں اور تمام فرض نمازوں کو مستحب وقت پر ادا کریں۔ خلوت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور آنے جانے والوں کے ساتھ اگرچہ وہ بے شرع ہوں خوش اخلاقی سے پیش آئیں، جیسا کہ ہمارے حضرات کرام قدسنا اللہ تعالیٰ سر ہم السامی کا معمول رہا ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا ہے!

لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ اذفع بالتی ہی احسن فاذا

الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقیہا الا الذین

صبروا وما یلقیہا الا ذو حفظ عظیم ○

”نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھا خلق رکھا کرو تاکہ آپ کے اور دوسرے کے درمیان دشمنی ہو تو وہ آپ کو اپنا عزیز اور دوست جانے، نیکی اور حسن خلق کو وہ لوگ پاسکتے ہیں جنہوں نے صبر کیا یا جس کو بڑا بھاری حصہ ملا۔“

آپ کو منزل مقصود پر پہنچنے کا پتہ بتا دیا ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید آپ پہنچ جائیں۔

عزیم اس سال شادی کا خیال ترک کر دیں۔ خانقاہ شریف سون سے واپسی کے وقت اگر ملاقات میسر ہوئی تو انشا اللہ اس کے متعلق بالمشافہ گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں۔ اپنے اور بیگانوں سے علیحدہ رہ کر مولائے حقیقی کی یاد میں ہمہ تن مصروف رہیں۔ ادھر ادھر کے دنیاوی خیالات و معاملات کی طرف کوئی توجہ نہ کریں، اپنے دینی اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لئے حضرات کبار کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعائیں مانگیں، خداوند کریم آپ کی ضرور لاج رکھ لے گا، اور آپ پر مطالب کی کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔

امام صاحب مرحوم کے مال و اسباب اور املاک سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ امام صاحب کا معاملہ چھوڑیئے، جو کچھ بھی ہو ہونے دو۔ مگر امام صاحب مرحوم کی کتابوں میں سے ان کی تعویذوں والی کتاب اگر دستیاب ہو سکے تو قیمت دے کر لے لیں، کیونکہ



اس میں ہمارے حضرات کرام کا نسب نامہ درج ہے۔

اگر ملا فیض اللہ صاحب اور ملا حبیب اللہ صاحب حسب معمول جیسا کہ وہ امام صاحب مرحوم کی خدمت کرتے تھے خانقاہ شریف میں خدمت کے لئے اقامت کرنا چاہیں تو آجائیں کوئی مضائقہ نہیں۔

والسلام

فقیر حقیر محمد سراج الدین عفی عنہ،



## روزے کی حقیقت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دے۔“ (بخاری)

## مکتوب ۳۵

بنام مولوی حسین علی صاحب

## صبر و ضبط اور خدا پر توکل کرنے کے بارے میں

مکرمی و معظمی مولوی حسین علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ، فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات و دعوات کے بعد عرض ہے کہ آپ کا ملال آمیز اور پریشان کن مکتوب گرامی موصول ہوا۔ جو موجب توجہ اور دعا گوئی ہوا۔ اور بدوزد خرقہ درویش را یعنی درویش کے خرقہ کو اللہ تعالیٰ ہی سیتا ہے۔

(بس اس بات کو پیش نظر رکھیں) اگر مخالف قوی ہے تو ہمارا خدا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے تمام کاموں کو خالق حقیقی کے سپرد کر دیں اور جو حالات پیش آئیں وہ خداوند کریم کی طرف سے ہی جائیں۔ اُمید ہے خداوند قدوس غیب سے کوئی ایسا معاملہ پیدا کرے گا جو مخالفین کے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا۔

یریدون لیطفوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ

○ الکافرون

کافر اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ ہی اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی مکر وہ معلوم ہو۔

جناب صبر اور تفویض الی اللہ درویشوں کا طریقہ ہے۔ اس سے باہر نہ جائیں۔

اگر خداوند کریم کو یہ امر منظور ہوگا تو ظاہر فرمادے گا اور اگر منظور نہ ہو انھو المراد فقیر کو اپنا دعا گو اور متوجہ تصور کریں۔ وہاں کے احباب کو ہماری طرف سے سلام و دعا۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

## مکتوب ۳۶

بنام قاضی صاحب

## دنیا کے مصائب اور لذت کے بارے میں

جناب مستطاب الحاجد نصاب ذوالعز والاحترام قاضی صاحب ادام اللہ بقاءہ -  
فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین غنی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنونہ عرض ہے کہ  
آپ کا رقعہ ملا۔ لڑکی کی وفات اور تنگدستی کے حالات معلوم ہو کر غم اور بھی تازہ  
ہو گیا۔ لیکن خداوند کریم کے اس ارشاد مبارک کے پیش نظر دل کو تسکین ملی۔

ولنبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال  
والا نفس والشمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم  
مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ..... اولئك هم  
المهتدون.

یعنی ”ہم ڈر، بھوک، میوہ جات کی خرابی اور مالی و جانی نقصان سے  
تمہاری آزمائش کریں گے اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت  
دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں! انا  
للہ وانا اليه راجعون پس یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

خواجہ محمد معصوم صاحب نے فرمایا ہے۔

”جس کو دنیاوی چیزوں سے زیادہ رغبت نہیں ہوگی اس کو حساب  
آخرت میں سہولت ہوگی۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

اثنان يكرههما ابن ادم يكره الموت والموت خيره من



الفتنہ ویکرہ قلت المال و قلت المال اقل للحساب. وقال  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوة الدنيا مسرة الاخرة و  
مرة الدنيا حلوة الاخرة

دو چیزیں ہیں جن کو انسان مکروہ سمجھتا ہے۔ اول موت، حالانکہ  
موت اس کے لئے فتنہ سے افضل ہے، دوم قلت المال (دولت  
کی کمی) حالانکہ مال و دولت کی کمی حساب کو کم کرتی ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے!

دنیا کی لذتیں آخرت کو کڑوا کرتی ہیں، اور دنیا کی تلخیاں آخرت کو  
شیریں کرتی ہیں۔

پس معلوم ہوا دنیا کی تلخیوں کی بدولت آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں اور

دنیاوی مال و جاہ موجب نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

نسيتا للذهب والفضة فماند خير قال لسانا ذاكراً وقلباً  
شاكراً ووزوجة تعين على الاخرة،

معاش کی تنگی کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں اللہ روزی کو کشادہ کرنے والا ہے۔

آپ کو خوش خوش رہنا چاہئے اور اس تکلیف سے لذت اٹھانا چاہئے جو محبوب حقیقی کی  
طرف سے پیش آئے وہی محبوب ہونا چاہئے خواہ کلفتیں اور نعمتیں دونوں ساتھ ساتھ  
ہوں یا نعمتیں ہی نعمتیں ہوں۔

بات لمبی ہو گئی۔ براہ مہربانی ناراض نہ ہوں۔

والسلام علی من اتبع الهدی،

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔



## مکتوب ۳۷

بنام مولوی عطا محمد صاحب

## دو حضرات کے قیام کرنے کی اجازت

### کے بارے میں

جناب مستطاب مکرمی مولوی عطا محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر حقیر لاشئ محمد سراج الدین عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنونہ معلوم ہو کہ فقیر ہر طرح خیریت سے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جادۂ شریعت العلیہ المصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر سلامتی واستقامت عطا فرمائے۔

کافی عرصہ سے آپ نے اپنے افکار و حالات سے آگاہ نہیں کیا۔ سخت انتظار ہے۔ گزشتہ سے جو عادت رہی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے ذکر و اذکار اور خیر و عافیت کے حالات سے مطلع فرمائیں تاکہ تسلی ہو۔

دوم عرض یہ ہے کہ یہ حاملان رقعہ دونوں حضرات عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خاندان علم میں ضرب المثل تھا۔ فی الحال یہ دونوں حضرات فقیر کے پاس آئے ہیں۔ اس سفر میں ان کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ آبا و اجداد سے حضرات کرام کے خدام چلے آتے ہیں۔ بہت نیک اور صالح ہیں۔ ان کو قیام کے لئے جگہ دیں اور سبق شروع کرادیں۔ تسلی کے لئے فقیر کو مطلع فرمائیں۔

فقیر کو اپنا دعاگو و متوجہ تصور کریں۔ زیادہ تسلیمات و دعوات مقدمہ کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔ قصہ مختصر ان دونوں حضرات کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

## مکتوب ۳۸

بنام احمد خان صاحب

## قبروں پر کتبے لگانا اور ان کو پختہ

## کرنے کے بیان میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

ابا بعد اعزی و ارشدی احمد خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و  
برکاتہ جناب کا محبت نامہ موصول ہوا۔ خیر و عافیت کی خبر سن کر خوشی حاصل ہوئی۔  
آپ نے ایک بہت لمبی عبارت اس بارے میں لکھی تھی کہ فلاں ڈاکٹر کہتا ہے کہ قبروں  
پر کتبے لگانا بدعت ہے اور مشائخ سر ہند رحمہم اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ عزیزم اس  
کا یہ کہنا محض کورانہ تقلید اور رعونت کی بناء پر ہے۔ ڈاکٹر مسئلے کی حقیقت سے بالکل  
ناواقف ہے۔ پس اس مسئلے کے متعلق ضرورت کے پیش نظر مختصراً تحریر کرتا ہوں۔  
سننے بدعت اصطلاح میں اس کام کو کہتے ہیں کہ اس کی اصل قرون ثلاثہ میں  
اولاً موجود نہ ہو۔ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں!

## اول حرام

یہ وہ بدعت ہے جو غیر مشروع ہے اور اس کو عبادت جان کر کیا جائے۔ جیسا  
کہ اکثر رمضان شریف کے آخری جمعہ میں بدعات کرتے ہیں۔

## دوم مکروہ

یہ وہ بدعت ہے جیسا کہ جتنی بھوک تھی اس سے بہت زیادہ کھالیا جائے اور جو



بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو جائے۔

## تیسری قسم واجب

مثلاً فرق باطلہ کے رد میں حج کا ترتیب دینا اور دلائل قائم کرنا۔ اس قسم کی

بدعت واجب ہے۔

## چوتھی قسم مستحب

مثلاً رباط اور گھروں کا بنانا۔

## پانچویں قسم مباح

مثلاً کھانے پینے، پہننے اور اس قسم کی دوسری عادات، پس ہر بدعت کا انکار کرنا

اور علی الاطلاق مورد طعن جاننا چاروں مذاہب اور معتبر علماء کے مسلک کے خلاف ہے۔

علماء نے پانچوں قسم کی بدعات کی تصریح فرمائی ہے جو ان کا انکار کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہئے

کہ وہ وہابی عقائد رکھتا ہے۔

شامی نے درالمختار میں مسئلے کی صورت کو آئندہ عبارت میں بیان کیا ہے۔

قال فی درالمختار فی جنائز السراجیة لا بائس بالکتابة

احتیج الیہا حتی لا یدھب الاثر ولا یمتھن و قال الشامی لان

انہی عنہا وان صح فقد وجد الا جماع العملی بہا فقد

اخرج الحاکم النہی عنہا من طرق ثم قال ہذہ الاسانید

صحیحة و لیس العمل علیہا فان ائمة المسلمین من

المشرق الی المغرب مکتوب علی قبور ہم وهو عمل

اخذ بہ الخلف عن السلف ویتقوی بما اخرجہ ابوداؤد

باسناد جید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل حجرا

فوضعه عند رأس عثمان بن مظعون و قال اتعلم بہ قبر اخیہ

وادفن اللہ من مائة من اهلى فان الكتابة طريق الى تعرف  
القبر بها يظهران محل هذا لجماع العملى على الرخصة  
فيها ما اذا كانت الحاجة داعية اليه فى الجملة كما اشار اليه  
فى المحيط بقوله وان احتيج الى الكتابة حتى لا يذهب الاثر  
ولا تمتهن فلا بأس به ما للكتابة بغير عذر فلا- ومثله فى  
القاضى خان وغيره-

”علامہ شامی نے در المختار میں فرمایا ہے کہ قبروں پر بصورت احتیاجی  
لکھنا کوئی مضائقہ نہیں تاکہ قبر کا نشان نہ مٹ جائے اور  
قبر بوسیدگی کی حالت میں بھی معلوم ہوتی رہے۔ علامی شامی اس پر  
فرماتے ہیں کہ نہی اگر صحیح بھی ہو جائے تو اجماع عملی تو پایا جاتا  
ہے۔ حاکم نے نہی کو کئی طریقوں سے روایت کیا ہے پھر فرمایا ہے  
کہ یہ سند صحیح ہیں، لیکن معمول بہا نہیں کیونکہ مشرق و  
مغرب کے ائمہ مسلمین کے نام ان کی قبروں پر کندہ ہیں اور یہ  
ایک ایسا عمل ہے جس کو اخلاف نے اسلاف سے لیا ہے اور یہی  
بات ابی داؤد کی اس روایت سے جس کو اس نے عمدہ سند سے  
روایت کیا ہے قوی ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر لیا اور اسے عثمان بن  
مظعون کی قبر کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اس سے اس کے بھائی کی  
قبر کی پہچان ہو سکے گی، اور میرے رشتہ داروں میں سے جو انتقال  
کرے گا اس کو اسی کی طرف دفن کروں گا، تو اس روایت سے  
ظاہر ہے کہ رخصت پر اجماع عملی کا محل اس وقت ہو سکتا ہے کہ  
جب کتابت کی احتیاج پیش آئے جیسا کہ اس کی طرف محیط میں  
اشارہ کیا ہے۔ صاحب محیط کا یہ قول ہے کہ اگر کتابت کی احتیاج پڑ



جائے تاکہ قبر کے آثار نہ مٹیں اور نہ ہی وہ بوسیدہ ہو اس صورت میں لکھنا کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر بلاعذر کتابت ہو تو نہ لکھا جائے۔ قاضی خاں نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

پس قبروں پر کتبہ لگانا اور ان پر پتھروں کا رکھنا جس کو عرف عام میں (سراج) کہتے ہیں بدعت قرار دینا باطل ثابت ہوا۔ جیسا کہ مذکورہ بالا عبارت میں تصریح کی گئی کہ کتابت مذکورہ کا فعل ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اس کو اخلاف اسلاف سے روایت کرتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ یہ تعمیل کی حد کو پہنچ چکا ہے اور حکم میں دلیل قطعی ہو چکا ہے اور خبر واحد کی تخصیص دیتے ہوئے بصورت عدم فائدہ یہ مسلم ہے کہ شیرینی پر خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے اور باقی جو آپ نے لکھا تھا کہ مشائخ سرہندیہ کی سنت کے مخالف ہے اگرچہ یہ بات بھی واقع کے مطابق ہے۔ لیکن گزشتہ بالا عبارت سے ثابت ہوا، پس یہ ہماری بحث میں موجب نقصان نہیں۔ کیونکہ وہاں کی آراضی اور بناوٹ کی پختگی کے باعث وہاں پر کتابت کی حاجت نہیں رہی اور باقی جگہوں میں جہاں پر کتابت کی ضرورت ہے وہاں پر مشرق و مغرب کے ائمہ مسلمین کی قبور کے معمول پر قیاس کیا جائے گا۔ جیسا کہ استنبول میں جو پیروں کا ملک ہے اور ایران میں مقابر قدیمہ کی بنیاد ایسے زمانے میں ڈالی گئی ہے کہ اس زمانے میں عموماً مذہب اہل سنت والجماعت کا چرچا تھا۔ ایران کے قدیم مقبرے خود فقیر کے مشاہدے میں آئے ہیں۔ موسیٰ زئی کی زمین میں شورہ کے غلبے کی وجہ سے پلستر اور پختہ اینٹیں چند سال تک قائم رہ سکتی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔

پس اس صورت میں قبر کے آثار باقی رکھنے کے لئے کتابت مذکورہ اور پتھروں وغیرہ کا رکھنا ضروری ہے۔ قبور کو پختہ رکھنے کا مسئلہ بھی بعینہ اسی طرح ہے جیسا کہ قبروں پر کتبہ لگانا اور پتھر رکھنا۔ باقی احادیث متعددہ صحیحہ میں جو نہیں وارد ہوئی ہے ائمہ مسلمین نے اس کو صورت عدم احتیاج پر محمول کیا ہے، لیکن اگر قبر کے نشان کے مٹ جانے کا خوف ہے تو قبروں کو پکا کرنا اور کتبہ لگانا جائز قرار دیا ہے اور اس پر عمل بھی



متواتر ہے جیسا کہ آپ نے سر ہند شریف کے مزارات کا مشاہدہ کیا ہے۔ حالانکہ احادیث نہی تخصیص (پختگی) کے متعلق آئی ہیں اور اس نہی کو موکد بھی کیا گیا ہے۔ ہاں اگر قائل ان صورتوں کا انکار بھی کرتا ہے تو اس کو اول قبور پر بنائیں وغیرہ ڈالنے کا انکار کرنا چاہئے جس کے متعلق اسلاف و اخلاف سے کوئی معتبر وجہ نہیں ملتی۔ بالجملہ فلاں ڈاکٹر کے لئے موسیٰ زئی شریف کی قبور کے لئے لب کشائی کرنا نامناسب ہے۔ کیونکہ وہ خانقاہ شریف کی خاصیت زمین اور وضع قطع سے بالکل ناواقف و نابلد ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس نے سنی سنائی باتوں کی تقلید کر لی اور اس بناء پر درویشان خدا کے اطوار کو مکروہ اور انکار کی نظر سے دیکھا۔ ساتھ ہی مجھے آپ پر بھی تعجب ہے کہ آپ کو کیوں تردد لاحق ہوا۔ جب کہ آپ خانقاہ شریف کے قرب و جوار سے بخوبی واقف ہیں اور آپ وہاں عرصے تک رہ چکے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ خانقاہ شریف میں علماء و فضلا کا مجمع رہتا ہے جو طریقہ سنت سنیہ کے خلاف ایک قدم اٹھانا بھی برا سمجھتے ہیں اور پیران حضرات کرام موسیٰ زئی تمام مسائل میں حرام و حلال کی پابندی کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں۔ کیا پھر یہ امید ہو سکتی ہے کہ خانقاہ شریف میں جمہور کے مسلک کے خلاف کوئی کام کیا جاسکتا ہے۔

نیز جس خدمت کی تکمیل آپ کے سپرد کی گئی تھی اس کو ابھی تک آپ نے التوا میں ڈال رکھا ہے۔ اعزی حافظ محمد خاں صاحب سرلوح کے بنانے بنوانے میں مصروف تھے۔ انشاء اللہ جلد ہی مکمل کر کے آپ کے پاس روانہ کر دی جائے گی۔ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقیر کو دعا گو تصور کریں۔

والسلام

فقیر محمد سراج الدین عفی



## مکتوب ۳۹

بنام مولوی عبدالرحمن صاحب

## دشمنوں کے شر کا علاج

مکرمی و معظمی جناب مولوی عبدالرحمن صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد تسلیمات مسنونہ عرض ہے کہ آپ کا نوازش نامہ موصول ہو کر موجب اطمینان ہوا۔ حالات مابینہا سے آگاہی ہوئی۔ خداوند کریم آپ کو حاسدوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی شرارتوں اور حسد کا وبال خود ان ہی پر پڑے۔ خدا آپ کے مکان کی جلد تکمیل کرائے اور آپ کو سلامتی و عافیت کے ساتھ رکھے۔ دشمنوں کے شر کو دور کرنے کے لئے سورۃ شریف ”لایلفل قریش“ ہر روز ایک سو مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ امید ہے کہ کافی المہات آپ کے لئے کافی و شافی ہوگا۔

مبلغ دس روپے ایک سیر چائے کے لئے روانہ کئے جاتے ہیں۔ چار روپے کی موٹے پتوں والی سبز چائے جیسا کہ آپ اس سال اپنے ساتھ لائے تھے اور عشاء کے وقت پکا کر آپ نے مجھے عنایت کی تھی۔ تین روپے کی باریک پتوں والی سبز چائے خرید لیں۔ یہ کل سات روپے ہوئے باقی تین روپے محصول ڈاک کے لئے ہیں۔ دونوں قسم کی مذکورہ سبز چائے اور اپنے کل حالات فقیر کو جلد ارسال فرمائیں۔ خانقاہ شریف کے جمع احباب کی طرف سے تسلیمات و دعوات موصول ہوں۔

۴/ رجب خانقاہ شریف سون

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ



## مکتوب ۴۰

بنام فرزند ان سعادت مند محمد ابراہیم و  
محمد علاؤ الدین صاحبان و جناب مستطاب میرا صاحب  
وحاجی صاحب و محمد قبول و مولوی صاحب

## اپنے علاج معالجہ کے متعلق

بعد سلام مسنونہ و عافیت مثنویہ عرض ہے کہ الحمد للہ فقیر کے حال احوال  
لائق حمد قادریناں ہیں۔ آپ سب کی سلامتی و عافیت درگاہ رب العزت سے ہمیشہ چاہتا  
ہوں۔

اس جگہ کے حالات سے آپ صاحبوں کو برابر مطلع کیا جاتا ہے لیکن آپ کے  
ہاں سے اب تک سوائے ایک خط کے اور کوئی خط نہیں پہنچا۔ امید ہے سوائے عافیت کے  
کوئی اور چیز خط ارسال کرنے میں مانع نہیں ہے۔

فقیر نے ایک انگریز سول سرجن سے اپنا معائنہ کرایا تھا۔ اس نے نہایت غورو  
فکر سے دیکھ کر ایک نسخہ تجویز کیا ہے اس نے کہا ہے کہ موٹاپا روز بروز لاغری میں  
تبدیل ہو جائے گا۔ کل سے اسی ڈاکٹر کی دوا شروع کی ہے۔ خداوند کریم سے شفا کا  
امیدوار ہوں۔ آپ اپنے جمع احوال سے مطلع فرمائیں تاکہ اطمینان قلب ہو۔ یہ بھی  
معلوم رہے کہ گو استعمال تو ڈاکٹری دوا کا ہے لیکن معالجہ شاہ صاحب کا ہے۔ شاہ صاحب  
و قافلاً مختلف امور میں ڈاکٹر صاحب سے صلاح و مشورہ لے لیتے ہیں۔ باقی فقیر خیریت  
سے ہے۔ آپ سب کے لئے دعا گو ہے۔ اپنی دعاؤں میں فقیر کو بھی یاد کر لیا کریں۔

ذی عظمہ و ہمتہ حضرت قبلہ مخدومہ معظمہ والدہ صاحبہ ادا مہا اللہ تعالیٰ کی  
خدمت میں تسلیمات و تعظیمات عرض کر دیں۔ ان کی دعاؤں کا طالب ہوں۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ (از لاہور ۲۴ صفر بروز اتوار)



## مکتوب ۴۱

بنام محمد ابراہیم و محمد علاؤ الدین ارشد ہم اللہ تعالیٰ و  
جناب میر اصاحب و محمد مقبول صاحب و مولوی صاحب وغیرہ

## حال و احوال پرسی کے متعلق

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

بعد سلام مسنون معلوم ہو کہ فقیر کے کل حالات حمد کے لائق ہیں۔ آپ  
سب کی خیر و عافیت و سلامتی کا خواہاں ہوں۔ اس سے پیشتر لگا تار کئی خطوط روانہ کر چکا  
ہوں، امید ہے باعث آگاہی ہوئے ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے اللہ بھی فقیر سے مل کر آپ  
کے پاس آ رہا ہے، وہ فقیر کے جملہ احوال بالمشافہ بیان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرف  
سلامتی و عافیت نصیب فرمائے فقیر بھی عنقریب یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ مگر چونکہ  
طیب سے رخصت کا وقت ابھی طے نہیں ہوا اس لئے اپنی آمد کا دن اور تاریخ تعیین  
نہیں کر سکتا۔ بہر حال اپنے حالات تحریر کریں۔ کچھ روز سے آپ صاحبان کے حالات  
کی کوئی خبر نہیں پہنچی۔ اپنی غائبانہ دعاؤں میں فقیر کو فراموش نہ کریں۔ فقیر کو بھی اپنا  
متوجہ اور دعا گو تصور کریں۔

حضرت مخدومہ قبلہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں نہایت مؤدبانہ سلام کے بعد  
میرے حق میں دعاؤں کے لئے عرض کر دیں۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

لاہور ریلوے روڈ۔ ذخیرہ فضل دین۔

۷ ربیع الاول



## مکتوب ۲۲

بنام فرزند جگر بند نور چشم محمد ابراہیم صاحب و

محمد علاؤ الدین صاحب و جناب میرا صاحب و

حاجی صاحب و محمد قبول و مولوی صاحب و

حافظ صاحب و ملا صدور صاحب

## علاج معالجہ کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى!

تسلیمات و دعوات مسنونہ کے بعد معلوم ہو کہ الحمد للہ فقیر آج بروز سوموار یعنی مورخہ ۱۷ صفر تک خیر و عافیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر لحاظ سلامتی و عافیت کے ساتھ رکھے۔

فقیر مسلسل کوئی نہ کوئی خط آپ صاحبان کو لکھتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود اب تک آپ صاحبوں کی خیریت کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سخت انتظار ہے۔ خداوند کریم عافیت نصیب فرمائے۔ فقیر نے جو اپنا پتہ تحریر کیا ہے اسی پتہ پر مجھے خطوط پہنچ سکیں گے۔ اس خط کو دیکھتے ہی اپنے کلی و جزئی احوال تحریر کریں تاکہ دل کو تسلی ہو۔ علاج معالجے کی یہ کیفیت ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن اب تک کوئی آفاقہ نہیں ہوا۔ آئندہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔

وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد

یعنی میں اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ اپنے

بندوں سے باخبر ہے۔

پانچوں وقت فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زیادہ دعا۔ حضرت قبلہ مخدومہ معظمہ والدہ صاحبہ کی خدمت عالیہ میں تسلیمات و تعظیمات عرض کر دیں۔ نیز میرے درجات و حیات کی ترقی کے لئے دعا کرائیں۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ،



## پسندیدہ عمل

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اُس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور اُس نے اپنی بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر بیوی نہ اٹھی تو خاوند نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا، اللہ تعالیٰ اُس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھی اور جس نے نماز پڑھی اور جس نے اپنے خاوند کو اٹھایا۔ اگر وہ نہ اٹھا تو عورت نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔“ (ابوداؤد)



## مکتوب ۴۳

بنام نور بصر قرۃ العینین فرزند ان سعادت پیوند محمد ابراہیم و محمد علاؤ الدین و جناب  
میر اصاحب، وحاجی صاحب و محمد قبول و مولوی صاحب و حافظ صاحب و غیر ہم

## اپنی بیماری کے بارے میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

سلام مسنون و عافیت مشخون کے بعد واضح ہو کہ الحمد للہ یہاں کے حالات حمد  
کے لائق ہیں۔ حضرات کرام کی برکات شامل حال ہیں۔ اور ان کے فیوضات سے ہم  
لامال ہیں۔ آپ سب کے لئے خداوند قدوس کی درگاہ سے خیر و عافیت کا خواستگار  
ہوں۔

اس سے پیشتر دو خطوط ارسال کر چکا ہوں۔ امید ہے مل گئے ہوں گے اور  
عبیت کا باعث ہوئے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے احوال کی کوئی خبر نہیں۔ فقیر کی  
حالت تو یہ ہے کہ پچھلی دوائی دو روز استعمال کی جس سے اسہال آنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب  
نے اس دوا کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ فی الحال کوئی دوا استعمال نہیں کر رہا  
ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسری دوا دینے کو کہا ہے۔ خیر دیکھا جائے گا۔ آئندہ جو بھی  
حالات پیش آئیں گے ان سے مطلع کر دوں گا۔ خاطر جمع رکھیں۔ اپنی غائبانہ دعاؤں میں  
فقیر کو فراموش نہ کریں۔

والسلام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

لاہور ریلوے روڈ مقابل اسلامیہ کالج نو۔

## مکتوب ۴۴

بنام فرزند جگر بند سعادت آئین محمد ابراہیم و محمد علاؤ الدین زاد ہم اللہ فضلًا و

جناب میرا صاحب و حاجی صاحب و محمد قبول صاحب و مولوی صاحب

## اپنے علاج معالجے کے متعلق

تسلیمات و چشم بوسی و دعوات عافیت کے بعد عرض ہے کہ آج بروز ہفتہ آپ کا خط موصول ہو کر کاشفِ احوال ہوا۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ فقیر نے سول سر جن کی تجویز کردہ دوائی آٹھ روز تک استعمال کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ایک یونانی حکیم صاحب فقیر کے پاس تشریف لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین روز اور قیام کیجئے اور میرا بھی علاج کر کے دیکھئے۔ اگر فائدہ ہو جائے تو فہما ورنہ پھر آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔

اپنی غائبانہ دعاؤں میں فقیر کو یاد رکھیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ آٹھ خط ارسال کئے گئے ہیں۔ تعجب ہے فقیر کو تو ان میں سے کل تین خط ملے ہیں۔ واللہ اعلم باقی کہاں گئے۔ ہو سکتا ہے کہ پتہ غلط لکھنے کی وجہ سے باقی خطوط نہ پہنچے ہوں۔ فقیر کا متواتر یہ معمول رہا ہے۔ کہ ایک روز چھوڑ کر دوسرے روز خط لکھ دیا کرتا تھا۔ پتہ محض اتنا لکھ دینا کافی ہے۔

”لاہور ریلوے روڈ ذخیرہ فضل دین بوٹہ فروش فقیر کو پہنچے“

قبلہ والدہ مخدومہ معظمہ کی خدمت میں تسلیمات و دعوات قلبی و تعظیمات

عرض ہوں۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ

## مکتوب ۴۵

بنام مولوی فقیر عبداللہ صاحب

## جمعیت قلبی بڑی دولت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

فیض مآب سعادت نصاب مولوی فقیر عبداللہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دندہ شریف سے جناب کا مکتوب گرامی موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ میرے عزیز آپ کو مقام مذکورہ میں ٹہرانے کی یہ غرض تھی کہ آپ کو ایک جگہ پر قیام کرنے سے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گا اور آپ فراخ دلی سے وہاں پر اپنے اوقات کی حفاظت کر سکیں گے۔ اگر مقام مذکورہ پر قیام کرنا آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہے تو خدا کی زمین تو فراخ ہے۔ جس جگہ آپ کے دل کو تسکین ہو سکے وہیں قیام فرمائیں۔ لیکن جمعیت کی سی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ فقیر کو دعا گو تصور کریں۔

والسلام

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ





## مکتوب ۴۶

بنام جناب مولوی حسین علی صاحب

## اپنی خانقاہ کے درویشوں کی خیریت کے بارے میں

جناب مستطاب مخدومی مولوی حسین علی صاحب جعلک اللہ اماماً للمتقین  
تسلیمات کے بعد عرض ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے جناب کا کوئی خیریت نامہ موصول  
نہیں ہوا۔ خدا کرے اس تاخیر کا سبب شغل ذکر مراقبہ کے سوا اور کوئی دوسرا امر نہ ہو۔  
مخدومنا حضرات کرام قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم کی عنایات کا ذکر کس منہ سے کیا جائے۔

گر برتن من زباں شود ہر موئے

یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

یعنی اگر میرے جسم کے ہر بال کو قوت گویائی عطا فرمائی جائے تو

میں اس کے ہزار شکر میں سے ایک بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔

مخدوما یہاں کے درویش اور آنے جانے والے حضرات ذکر و اذکار میں خوب  
سرگرم ہیں یہ بھی ہمارے حضرات گرامی قدسنا اللہ باسرا رہم السامی کی برکات کا نتیجہ  
ہے۔ ورنہ تو یہ نابکار جاروب کشی کی بھی لیاقت نہیں رکھتا۔ گزشتہ عرسوں کے متعلق کیا  
تحریر کیا جائے۔ بہت افسوس ہوا اور آپ کے لئے دعائیں کیں۔

انہ قریب مجیب و بالا جابہ جدیر

یعنی بے شک وہ ہم سے قریب ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے

اور دعا کے قبول کرنے کے لائق وہی ہے۔

اگر آپ اپنے مزاج اور متعلقین کے احوال سے مطلع فرمائیں تو بڑی عنایت ہوگی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ

اجمعین۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

فقیر محمد سراج الدین عفی عنہ (بقلم خود)

## مکتوب ۴۷

## بنام سید محمد شاہ صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب مستطاب محمد نصاب سیادت مآب محمد شاہ صاحب اوصک اللہ تعالیٰ الٰہی غایۃ مہتمناہ تسلیمات مسنونہ کے بعد فقیر محمد سراج الدین کی طرف سے عرض ہے کہ جناب نے کافی عرصہ کے بعد نوازش نامہ ارسال فرمایا جو موصول ہو گیا ہے۔ حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔

آپ نے جو کچھ حالات لکھے ہیں وہ سب حقیقت پر مبنی ہیں، خداوند تعالیٰ ان میں اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے۔ بحرۃ النبی وآلہ الامجاد و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ نص قاطع ہے۔

لئن شکرتم لا زیدنکم

یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں

میں اور اضافہ کرے گا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اس نے آپ کو ایسے حالات سے نوازا ہے۔

خدائے پاک کی ذات وراء الوراثم وراء الوراہے۔

مخدوما آپ نے لکھا تھا کہ سبز نور نے لطیفہ اخفی میں ظہور کیا، پھر یکایک دیکھتا

ہوں کہ وہاں بجز ذات بحت کے اور کوئی چیز نہیں۔ تو جناب من عرض یہ ہے کہ ہمارے

حضرات کرام نے لطیفہ اخفی کے لئے سبز نور لکھا ہے۔ معلوم ہو کہ جب خداوند کریم

نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت آپ نے عالم امر کے پانچوں لطائف کو عالم خلق

کے پانچوں لطائف کے ساتھ ترکیب دیتے ہوئے ان سب کو منصفہ ظہور پر لایا۔ عالم امر

کے لطائف صاف شفاف تھے وہ عالم خلق کی ہم نشینی کے باعث مکدر ہو گئے۔ اور ان لطائف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حضور حاصل تھا وہ لطائف عالم خلق کی ظلمت کی وجہ سے جاتا رہا۔ پس سالک عالم امر کے لطائف کو ذکر و مراقبہ کی جار دہ سے صاف کر لیتا ہے تاکہ ظلمت و تاریکی دور ہو جائے اور صفائی اور جلا پیدا ہو جائے اور اصل کی طرف راستہ بھی کھل جائے تاکہ اس راستہ سے عروج کرتے ہوئے اصل تک رسائی ہو جائے، عزیز شکر کیجئے کہ خداوند کریم نے آپ کے لطیفہ اخفی کو منور اور روشن کر دیا ہے جو جمیع لطائف میں سے اعلیٰ اور اللطیف ہے اور جو آنحضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے باقی لطائف بھی منور فرمائے گا۔

اس کے بعد آپ نے جو لکھا ہے کہ ”کیا دیکھتا ہوں کہ بجز ذات بحت کے اور کوئی چیز نہیں۔“ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ جب خداوند کریم نے آپ کے لطیفہ اخفی کو اپنے فضل و کرم سے منور کر دیا تو اس وقت آپ کو اس نور میں استہلاک و اضمحلال و فنا حاصل ہو گئی اس لئے ایسے وقت آپ کو بجز ذات بحت کے اور کوئی چیز نظر نہ آئی، آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ ایک سبز رنگ کا پرندہ ظاہر ہوا جو قفس میں گھومتا ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور اس کے پروں کے ہر بال سے قطرے گر رہے تھے اور ہر ایک قطرے سے ایک نہر جاری ہو گئی اور ہر نہر کے کنارے پر ایک بہت بڑا درخت پیدا ہوا جو سر و کی شکل کا سا ہے اس کا میوہ انار ہے۔“ عزیزم سبز پرندہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے جو اپنے قفس دائرہ امکان میں سیر کر رہا ہے اور کلمہ طیبہ کے ساتھ ذکر ہے۔ اس وقت اس کے پروں کے ہر بن مو سے قطرات گر رہے ہیں۔ یہاں پانی سے مراد فیض ہے اور ہر ایک قطرے سے ایک نہر جاری ہے۔ عزیزم نہروں سے مراد وہ راستے ہیں جو موصل الی المقصود ہیں اور ہر ایک نالے پر جو درخت پیدا ہو گیا ہے اس سے مراد اس طریقے کا شجرہ ہے اور ایک بڑا درخت جو سرد کی شکل کا پیدا ہوا تھا جس کا میوہ انار ہے۔ پرندہ اپنے قفس سے اُڑ کر اس



درخت پر جا بیٹھا اور اس کا میوہ توڑ کر نیچے پھینکتا ہے جب میوہ نیچے زمین پر پہنچتا ہے تو اس سے ایک بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ پرندہ اس شاخ سے اڑ کر درخت کی چوٹی سے ایک دانہ اپنی چونچ میں لے کر مقام دارالارشاد سرہند شریف میں جا پہنچتا ہے اور اس دانے کو گرا دیتا ہے، پھر اس دانے سے ایک بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے جس پر ہمارے حضرات متوسلین نقشبندیہ مجددیہ کے اسمائے گرامی منقوش ہوتے ہیں۔

عزیزم سرو کی شکل کا بڑا درخت طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ یہ طریقہ حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ جو بالاتفاق جمیع اُمت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و التحیہ میں سے اشرف ہیں۔ جناب کو آپ کے مناقب بخوبی معلوم ہیں۔ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اسی واسطے حضرت خاتم الرسل ہادی سبل شافع کل مہدی اُمم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقہ عالیہ پر بہت ہی نظر شفقت ہے۔ آنحضرت ﷺ کی کثرت تल्प سے آپ کی روح پر فتوح اس درخت پر پہنچی اور اپنی چونچ میں میوہ لے کر دارالارشاد سرہند شریف پہنچ کر میوہ ڈال دیا جس سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا، جناب چونکہ طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ اعلیٰ واولیٰ ہے اس واسطے اس درخت کے سرے پر پہنچ کر اس کا میوہ جو اعلیٰ اور عمدہ تھا دارالارشاد سرہند شریف میں ڈال دیا جس سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا۔ درخت کے سرے پر نام نامی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی لکھا ہوا تھا اور بعدہ جمیع متوسلین طریقہ شریفہ مجددیہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ خاکسار نے اپنا نام بھی اس میں لکھا ہوا دیکھا۔ عزیزم! خدائے ذوالجلال کا شکر کیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اس زمرے میں پایا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے حالات اور مقامات میں سے کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مسعود کی بشارت اولیائے متقدمین نے دی تھی۔ چنانچہ شیخ احمد جام اور شیخ خلیل اللہ بدخشی نے آپ کے متعلق بشارت دی تھی۔ بلکہ حبیب خدا سرور انبیاء علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے بھی آپ کی بشارت دی

ہے جس کو سیوطی نے کتاب جمع الجمع میں یوں فرمایا ہے۔

يكون في أمتي رجل يقال له الصلہ يدخل الجنة بشفاعه كذا  
و كذا اخرجه ابن سعد عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر -  
میری اُمت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے صلا یعنی ملانے والا کہا  
جائے گا۔ اس کی شفاعت سے بہت سے لوگ جنت میں  
جائیں گے۔

خود حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھٹے مکتوب میں فرمایا ہے۔

الحمد لله الذي جعلني صلة بين البحرين

حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں فرمایا ہے کہ!  
”شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفتاب ہیں۔ ہم جیسے ہزاروں ستارے  
ان کے سائے کے نیچے گم ہیں۔ اس اُمت میں تین شخصوں کو ان  
کے مانند جانتا ہوں۔ فی الحال آسمان کے تلے ان کے مانند اور کوئی  
نہیں۔ اپنے آپ کو ان کا طفیلی جانتا ہوں۔ آپ کے معارف سب  
صحیح اور مقبول ہیں۔“

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

”ایک روز مجھ پر اپنے اعمال کے بارے میں بہت ندامت اور  
پریشانی کا غلبہ ہوا اور اپنے اعمال کا تصور سر اسر میری نظروں میں  
آیا تو اس وقت بحکم! من تواضع لله فقد رفع الله قدره مجھے  
ندا آئی، غفرت لك ولمن توصل بك۔

آپ کے وسیلے سے بلا واسطہ تا قیام قیامت بہت سے بخشے جائیں  
گے۔

دوسرا واقعہ بھی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنجناب کی آپ پر  
بہت شفقت ہے بلکہ جمیع متوسلین پر بھی۔ اور وہ جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا ہے کہ خاک شوخاک۔ ہرچہ است از خاک میاید بروں عزیز من مٹی بننے سے مراد عجز و انکساری ہے اور اپنے اعمال پر ہر وقت غمگین و غمزدہ رہنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔

عزیزم فی الحال اس مراقبہ کی نیت کریں جو اس سے آگے ہے اور فقیر کو ہر وقت اپنا متوجہ اور دعا گو جانیں۔ یہ جمیع وقائع بشارات ہیں۔ کوشش کیجئے کہ حضور دائمی ذاتی حاصل ہو۔

ربنا لا تو اخذنا ان نسينا او اخطانا والله سبحانه اعلم بحقائق  
الامور كلها و صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد و اله  
وصحابه اجمعين.

والسلام على من اتبع الهدى  
فقير محمد سراج الدين عفى عنه



## دعا کب قبول ہوتی ہے؟

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات نہ ہو اور جلدی نہ مچائی جائے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”بندہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا رہا کرتا رہا مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ اس کے بعد آدمی اکتا جاتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے۔“ (مسلم)



## مکتوب ۴۸

بنام ابو محمد برکت علی شاہ صاحب

## بیٹے کی وفات پر تعزیت اور

### صبر و ضبط کی تلقین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

مجمع انکرامات والبرکات، منبع الفیوضات والحسنات، معدن الکمالات والروايات جناب محامد نصاب سیادت مآب مخدومی و مکرمی ابو محمد برکت علی شاہ حفظ اللہ عن الحوادث والنوائب، فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین کی طرف سے سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ الحمد للہ فقیر بمع متعلقین اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیر و عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے اور جادہ شریعت المصطفویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرمائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جناب سید محمد یامین صاحب مشیر اعلیٰ ریاست نالیر کوٹلہ کاملول کرنے والا خط ملا۔ جس میں آپ کے حمید الخصال محمود الافعال جگر گوشے کے انتقال کی جانکاہ خبر درج تھی۔ دل کو بہت ہی صدمہ ہوا۔

انا لله وانا اليه راجعون ط اللهم لا تحرنا اجره ولا تفتنا

بعده

اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔

واقعی آں عزیز مرحوم کا انتقال جان کو گھلا دینے والا حادثہ ہے۔ اور بے شک ایک بہت بڑی مصیبت و بلا ہے لیکن خداوند رب الارباب سے اُمیدوار ہوں کہ وہ ذات پاک آپ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے گا خداوند کریم آنجناب کو بحرمتہ سید الشیخ والشاب وآلہ واصحابہ ناشری السنن و معلی الکتاب ایک صالح فرزند عطا فرمائے گا جس کو انشاء اللہ عمر دراز نصیب ہوگی۔

اللہم کثر احبابہ و اولادہ و فرح انصارہ و احفادہ و غظ اعداءہ و حُسادہ،

مخدوم اس دُنیا کے مصائب و آلام ظاہر میں تو زخموں کی مانند ہیں لیکن حقیقت میں یہ ترقیات و ثمرات کا موجب ہیں۔ سعادت مند ان کی حلاوت کو مد نظر رکھتے ان کی تلخی کو شکر کی مانند شیریں محسوس کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بھلا یہ لوگ ان تلخیوں کو کیوں نہ شیریں خیال کریں جبکہ محبوب کی ادائیں شیریں معلوم ہوا کرتی ہیں۔

هنئياً لا رباب النعيم نعيمها

وللعاشق المسكين ما يتجرع

فقیر کو بہر حال اپنا متوجہ تصور کریں۔ جمیع اہل خانقاہ شریف خصوصاً مولوی غلام حسین صاحب اور قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی کی طرف سے تسلیات عرض ہوں۔ فقیر کی طرف سے بھی آپ کے جمیع متعلقین کو تسلیات و دعوات۔

اس خط کے لکھنے کے بعد جناب کا نوازش نامہ شرف صدور لایا غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرات کرام کی طرف متوجہ ہو کر خداوند کریم کے سپرد کیا۔ عوام کی افواہ سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ ان کو حق تعالیٰ کے حوالے کیجئے۔

ما نجی اللہ والرسول معا

من لسان الوری فکیف انا

دشمن چہ کند چوں مہرباں باشد دوست

یریدون لیئلفوا نور اللہ بافواہم واللہ معہ نورہ

ولو کرہ الکافرون

”اللہ اور اس کے رسول نے لوگوں کی زبان بدگوئی سے نجات

نہیں پائی تو پھر میں کیسے نجات پاسکتا ہوں۔ جب دوست مہربان

ہوتا ہے تو دشمن کی کچھ نہیں چلتی۔ کافر اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ

کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ ہی اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔

خواہ کافروں کو کتنا ہی مکروہ معلوم ہو۔

احقر دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند کریم و رحیم آپ کو جمع

انفسی و آفاقی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی حمایت نصیب فرمائے اور کسی

غیر کے سپرد نہ کرے۔

اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا اقل منها

یعنی ”اے اللہ ہمیں ایک لمحہ یا اس سے کم بھی اپنے نفسوں

کے حوالے نہ کیجئے۔“

عزیز مرحوم کی والدہ محترمہ کو بعد از تسلیمات و تعزیات فقیر کی طرف سے

دعائیں، اور عرض کر دیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس ضعیفہ کو نیک صالح طویل العمر فرزند

عطا فرمائے گا۔ غمگین نہ ہوئے۔ سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے۔

فقیر کو ہمیشہ اپنا دعا گو اور متوجہ تصور کیجئے۔ منشی اشرف الدین کے مقدمہ کے

بارے میں بہت دعائیں کی گئی ہیں۔ خداوند کریم قبول فرمائے۔ کرامت علی شاہ صاحب

کے حالات سن کر غم ہوا۔ اگر بالتفصیل لکھیں کہ وہ کیسے چلا گیا تو عنایت ہوگی۔

جناب کا اجازت نامہ کشمیر کاغذ پر لکھا گیا ہے۔ کیونکہ سلاسل شریفہ والے

کاغذات ضعیف معلوم ہوتے تھے۔ جناب میر محمد یامین صاحب اور منشی سوندھی خان

صاحب اور باقی وہاں کے متعلقین کو تسلیمات و دعوات۔



والسلام علی من اتبع الهدی و صلی اللہ علی خیر خلقہ  
محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

مورخہ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۲۱ء ہجری المقدس  
از خانقاہ شریف سون  
راقم فقیر حقیر لاشی محمد سراج الدین عفی عنہ



### ذکر الہی سے غفلت

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”جس شخص نے ایک نشست ایسی گزاری جس میں اُس نے اللہ کو یاد نہ کیا اُس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جو شخص تھوڑی دیر اس طرح لیٹا رہا کہ اس دوران میں اُس نے اللہ کو یاد نہ کیا، اُس پر اللہ کی طرف سے تباہی مسلط ہو گئی۔“ (ابوداؤد)

## مکتوب ۴۹

بنام مولوی سراج الدین صاحب

## مرید ہونے کے مقصد اور بیعت کے مروج

### طریقے کے بارے میں

محبت و اخلاص نشان مولوی سراج الدین مثبۃ اللہ تعالیٰ علی الصدق والیقین فقیر حقیر لاشئ محمد سراج الدین کی طرف سے تسلیمات و دعوات مسنونہ کے بعد معلوم ہو کہ الحمد للہ فقیر کے احوال حمد کے لائق ہیں۔ درگاہ رب العزت سے جادۂ شریعت صاحبہا من الصلوٰۃ والتحیات پر آپ کی استقامت چاہتا ہوں۔

آپ کا محبت نامہ موصول ہو کر کاشفِ احوال ہو اور زیادہ سے زیادہ دعوات کا موجب بنا۔ آپ نے چند سوالات کے جوابات طلب فرمائے ہیں ان سے مطلع ہوا۔ عزیزم اس قسم کے شبہات پیدا ہونے کا ایک سبب تو تصوف کی کتابوں سے ناواقفیت ہے، دوسرا سبب فتنہ ہے۔ (یعنی فتنہ وہابیہ)۔ اگر یہ شبہات کرنے والے لوگ صوفیائے متقدمین کی کتابوں مثلاً قوت القلوب اور احیاء العلوم وغیرہ اور متاخرین کی کتب مثلاً مکتوبات امام ربانی اور ان کی دیگر کتب کا مطالعہ کریں تو پھر اس قسم کے شبہات پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے جوابات طلب فرمائے ہیں اس لئے جواب تحریر کر رہا ہوں۔

سوال: مرید ہونے سے اصل مقصود کیا ہے؟

جواب: مرید ہونے سے اصل مقصود طلب طریقت ہے اور طلب طریقت واجب

ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الطالبین میں فرمایا ہے!

”جاننا چاہئے کہ طلب طریقت اور کمالات باطنیہ کی تحصیل میں کوشش کرنا

واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔“

”اے مسلمانو اللہ کا پورا پورا تقویٰ اختیار کرو۔“

پس یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کمال تقویٰ حاصل کرنا ضروری ہے اور

ولایت کے بغیر کمال تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ولایت کا حکم ہے

اور امر مطلق و جوب کے لئے ہوتا ہے۔ پس تحصیل ولایت واجب ہوئی اور جب حصول

ولایت بشر کے اختیار و وسعت میں نہیں بلکہ یہ امر و صہبی ہے اور تکلیف مالا یطاق غیر

واقع ہے، جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے!

لا یكلف الله نفساً الاّ وسعها

یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نیز

اتقوا الله ما استطعتم

یعنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرو۔

پس معلوم ہوا کہ تحصیل ولایت تو واجب نہیں بلکہ ولایت کی طلب واجب

ہے۔ جاننا چاہئے کہ ولایت کے بہت سے مراتب ہیں جو شمار میں نہیں آسکتے۔ جب ان

مراتب میں سے ایک مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو گزشتہ شے کے ساتھ نسبت کامل ہو

جاتی ہے اور جب پہلے مرتبے سے اوپر والا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پہلے کے مقابلے

میں تقویٰ کامل ہو جاتا ہے اور جب کسی کو تقویٰ کا ایک مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور

دوسرے کو اس مرتبے سے اوپر والا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ مرد اس سے بھی کامل

ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں تم سے اعلم باللہ اور اتقی

باللہ ہوں۔“ پس تقویٰ کی کوئی محصور فی الکمال حد نہیں۔ لیکن تقویٰ اختیار کرنا واجب



ہے، کیونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے۔ ”حق تقاہہ“ پس اس واسطے ہم طلبِ ولایت کی ایجابی کے درپے ہوئے تاکہ نص مذکورہ بقدر امکان معمول بن جائے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو سارے فرائض نوافل ہی ہو جائیں کیونکہ کمال تقویٰ ادائے سنن اور واجبات سے ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تقویٰ و قایہ سے مشتق ہے اور قایہ اسے کہتے ہیں کہ ترک و اہیات اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے پرہیز ہو۔ پس نوافل کے بجالانے کا تقویٰ میں دخل نہیں بلکہ وہ تو مرد میں ایک فضیلت ہے۔ جو شخص اقرب الی اللہ ہوتا ہے وہ اوروں کے مقابلہ میں زیادہ متقی ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو جب کہ اللہ کے عام منہیات مثلاً کبر، جسد، جزع، غصب، ریا، اظہار منت وغیرہ نفس کے رذائل ولایت کی بدولت زائل ہو جاتے ہیں۔ ولایت کے بغیر ان کا زائل ہونا مشکل ہے۔ نوافل کے پڑھنے سے ولایت حاصل نہیں ہوتی بلکہ فرائض کی تکمیل سے کلی طور سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت کی بدولت ہر فرض کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہتے کہ ولایت کے بغیر تو حصول ثواب کی صلاحیت نہیں رکھتے جب تک کہ انسان کو ریا، سمعہ اور اظہار منہ جیسے محارم الیہ سے خلاصی نصیب نہ ہو جائے۔

حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت کی ہے!

”کہ سب سے پہلا شخص وہ مرد ہوگا جو شہید ہوا تھا۔ اس کو پیش کیا جائے گا اور قیامت کے روز اس کا فیصلہ ہوگا۔ خداوند تعالیٰ اس پر احسانات کا اظہار فرمائیں گے۔ تو وہ جواب میں کہے گا میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا اور میں تیرے راستے میں شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے تو میرے لئے شہید نہیں ہوا بلکہ اس واسطے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔“

یہ باطنی بیماریاں بغیر قرب کے حاصل نہیں ہوتیں۔ پس تحصیل قرب کے

واسطے کوشش کرنا واجب ہے اور قرب کسی ایک مرتبہ پر جا کر ختم نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک قرب پر دوسرا قرب ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ ناقص پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے تاکہ اسے کمالات حاصل ہو جائیں اور کامل پر اس مرتبے کو حاصل کرنے کی کوشش واجب ہے جو پہلے مرتبہ سے بدرجہا بہتر ہو۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے! ”رب زدنی علماً“ اور اسی واسطے حضور ﷺ نے اپنی امت کے لئے آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجنا واجب فرمایا ہے، اور یہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ پس قناعت مراتب قرب کے لحاظ سے ناقص اور کامل دونوں پر حرام ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اور آپ ﷺ کے اصحاب کو کمال تقویٰ کا حکم فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ تقویٰ میں کامل و اکمل تھے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے!

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته

جناب من حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں اور بھی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ کو اور زیادہ دلائل کی ضرورت ہو تو پھر کتاب ارشاد الطالبین کا مطالعہ فرمائیں۔

نیز آپ نے کتاب ہجرت السنہ میں امام عبدالوہاب شیرانی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اہل طریقت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان کے لئے واجب ہے کہ وہ ایسے شیخ کو پکڑے جو ایسی صفات کے زوال کی تلقین کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانے سے روکیں تاکہ اس کی نماز درست ہو یہ!

مالا یتم الواجب الا بہ فہو واجب

کے باب سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باطنی امراض، دنیا کی محبت، کبر، فخر، ریا، حسد، بغض، کینہ، دھوکہ، نفاق وغیرہ کا علاج واجب ہے جبکہ احادیث میں ان کی تحریم آئی ہے۔ پس اس نتیجے پر پہنچے کہ جس نے ان صفاتِ رذیلہ کو زائل کرنے کے لئے کوئی شخص نہ پکڑا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگار ہوا۔



کیونکہ حکیم حاذق یعنی شیخ کے بغیر ان باطنی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ علم کی ہزار کتابیں بھی کیوں نہ حفظ کر لے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے طب کی کوئی کتاب حفظ کر لی، ظاہر میں تو دیکھنے والے اس کو یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑا طبیب ہے، لیکن جب کوئی اس سے مرض کی تشخیص اور اس کے ازالے کے لئے دوا کی تجویز کے متعلق کیفیت دریافت کرے گا اور وہ کچھ نہ بتا سکے تو سوال کرنے والا یہ ضرور کہے گا کہ یہ تو بالکل کور ہے اس سے زیادہ تو کوئی جاہل ہی نہیں۔

پس اے بھائی جان آپ شیخ ضرور پکڑیں اور میری نصیحت ضرور قبول کریں۔ آپ کو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہئے کہ صوفیہ کرام کا طریقہ تو ایسا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ کا یہ کہنا کفر ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ طریقہ صوفیہ تو سارے کا سارا اخلاقِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔

سوال: کیا مرید ہونے کا یہ طریقہ جو لوگوں میں مروج ہے منصوص ہے یا اجتہادی؟ اور کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کچھ تغیر و تبدل اس میں واقع ہے؟

جواب: بیعت کا طریقہ منصوص ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے قول الجلیل میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا دستِ قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے“ سو جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے نقصان کے لئے کرتا ہے۔

اور احادیثِ مشہورہ میں منقول ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے کبھی ہجرت اور جہاد کے لئے، کبھی ارکانِ اسلام یعنی صوم و صلوة، حج، زکوٰۃ پر اقامت کے لئے اور کبھی معرکہ کفار میں ثابت قدم رہنے کے لئے، کبھی سنت نبوی ﷺ کے تمسک اور بدعت سے بچنے کے لئے اور کبھی عبادت پر حریص اور شائق ہونے کے لئے۔ چنانچہ بروایت صحیح ثابت ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے



انصاری عورتوں سے نوحہ نہ کرنے پر بیعت لی، اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند محتاج مہاجروں سے اس بات پر بیعت لی ہے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کریں گے، سوان میں سے لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر کسی شخص کا کوڑا گر جاتا تھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر خود اس کو اٹھالیتا تھا اور کسی دوسرے سے کوڑا اٹھا کر دینے کا سوال نہ کرتا تھا۔

بعض نے یہ گمان کیا ہے کہ بیعت قبولِ خلافت اور سلطنت پر منحصر ہے اور صوفیوں میں بیعت لینے کا جو رواج ہے وہ شرعاً کچھ نہیں، یہ مخالفین کا گمان فاسد ہے، اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اقامتِ ارکانِ اسلام پر اور کبھی تمسکِ سنت پر بیعت لیتے تھے اور صحیح بخاری اس پر گواہی دے رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر بیعت لی کہ خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے اور حضور ﷺ نے قوم انصار سے بیعت لی اور یہ شرط کی کہ خدا کے احکام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے اور حق بات بولیں گے، سوان میں سے بعض لوگ امراء و سلاطین کے سامنے کھل کر بلا خوف رد و انکار کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے امور میں حدیث شریف سے ثبوتِ بیعت ملتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فقیر حقیر لاشیٰ محمد سراج الدین عفی عنہ



## خیر و برکت اور قضائے حاجات کیلئے

ختم شریف جمیع خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ اسرارہم

و بزرگان سلسلہ نقشبندیہ درج کئے جاتے ہیں

ختم شریف جمیع خواجگان نقشبندیہ قدس اسرارہم

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ شریف ایک مرتبہ پڑھ کر دعائے گنگے کہ یا اللہ اس ختم خواجگان کو قبول فرمائے اور جن بزرگوں کی طرف یہ ختم منسوب ہے ان کو اس کا ثواب پہنچادے۔ اس کے بعد

سورہ فاتحہ مبارک مع بسم اللہ سات بار، درود شریف سو بار، سورہ الم نشرح مع بسم اللہ انا سی ۷۹ بار، سورہ اخلاص مع بسم اللہ ایک ہزار بار، سورہ فاتحہ مبارکہ مع بسم اللہ سات بار، درود شریف سو بار، یا قاضی الحاجات سو بار، یا کافی المہمات سو بار، یا رافع الدرجات سو بار، یا دافع البلیات سو بار، یا شافی الامراض سو بار، یا مجیب الدعوات سو بار، یا ارحم الراحمین سو بار، ہر اسم شریف کے اول میں ایک دفعہ اللہم ملائے اور یا ارحم الراحمین سے پہلے ایک دفعہ برحمتک ملائے۔ اور کہے یا اللہ اس ختم شریف کا ثواب اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کو جن کی طرف یہ منسوب ہے اور ان کے پیران طریقت کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفاء و خدام کو خصوصاً جمیع حضرات نقشبندیہ کی ارواح مبارکہ کو پہنچادے۔

## بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ کے ختم شریف

- ۱- ختم حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ  
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  
پانچ سومرتہ اول و آخر درود شریف سو سومرتہ۔
- ۲- حضرت خواجہ محمد فضل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔  
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  
پانچ سومرتہ، اول و آخر درود شریف سو مرتہ،  
۳- حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط  
پانچ سومرتہ اول و آخر درود شریف سو مرتہ  
۴- حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ  
پانچ سومرتہ اول و آخر درود شریف سو سومرتہ۔  
۵- حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔  
رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ط  
پانچ سومرتہ اول و آخر درود شریف سو سومرتہ۔  
۶- حضرت خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ۔  
يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيحٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثَهُ وَمَعَاذَهُ يَا رَحِيمَ  
پانچ سومرتہ اول و آخر درود شریف سو سومرتہ۔



- ۷۔ ختم حضرت شاہ عبداللہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔  
یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی  
اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد  
پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔
- ۸۔ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ،  
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث  
پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔
- ۹۔ حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ،  
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ط  
پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔
- ۱۰۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ  
لا حول ولا قوۃ الا باللہ  
پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔
- ۱۱۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔  
يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي  
پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔ اور ہر سیکڑے  
کے بعد ایک مرتبہ!  
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ  
وَإِلْكَرَامِ پڑھے
- ۱۲۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔  
يَا خَفِيَّ اللُّطْفِ أَدْرِ كُنِّي بِلُطْفِكَ الْخَفِي  
پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ۔

۱۳- حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ اور ہر سینکڑے کے بعد!

نعم المولیٰ ونعم النصیر پڑھے۔

۱۴- ختم حضرت خیر المخلوق سید الاولیٰین و آلاخیرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تین سو مرتبہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّنَا  
بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ  
الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْتُقِنَا  
بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصٰى الْغَايَاتِ  
مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ  
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

نوٹ: ان میں سے ہر ختم شریف کو پڑھتے وقت اول ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر کہے کہ یہ ختم فلاں بزرگ کا ہے یا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ان بزرگ کو پہنچادے۔ پھر ختم شریف پڑھے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے کہ اس ختم کا ثواب اپنے فضل و کرم سے فلاں بزرگ کو اور ان کے پیران طریقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفاء و خدام کو پہنچادے اس کے بعد ان بزرگ کے وسیلے سے جو دعا چاہے مانگے۔

ان سب ختمات شریف کے پڑھتے وقت تھوڑا سا پانی کسی برتن میں رکھ لیا جائے اور بعد ختم کے تمام شرکاء ختم اس پر دم کریں۔ یہ پانی شفاء امراض کے لئے عجیب چیز ہے۔

چند ایسے عملیات و تعویذات درج کئے جاتے ہیں

جو بزرگوں کے معمول ہیں

لیکن اتنا خیال رہے کہ تعویذات و عملیات کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے۔

مندرجہ ذیل تعویذات بوقت ضرورت اپنے کام میں لائیں۔

۱۔ خاوند بیوی کی محبت کے لئے

اللہ پر بھروسہ کر کے،

”بسم اللہ“ کو ۷۸۶ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے۔ اول و

آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ۔

۲۔ خاوند بیوی کی محبت کے لئے

يَابُدُوْحُ اَكِيْسْ مَرْتَبَه لَكْهْ كَرْدْهَوْ كِرْ پَلَاَيْ۔


۳۔ آدھا سیسی کے درد کے لئے

لکھ کر سر پر باندھیں۔

جِلسَا	عِلْسَا	عِمْسَا
--------	---------	---------

۴۔ کاغذ پر لکھ کر مریض کے سر پر باندھیں سر کا درد دور ہو جائے گا۔

مَعْقَلْ ك ك ل



۵۔ جس کسی عورت کا حمل گر جاتا ہو یا بچہ پیٹ میں نہ بڑھتا ہو۔

ان اسماء کو لکھ کر پیٹ پر باندھے۔

افق مریق تزئیق و شیق لابدو لاوزیغ اسکن ایہا المولود برب عاد و شمودو

نقرنی الارحام ماتشاء الی اجل مسٹی ،



۶۔ مرگی کے لئے لکھ کر گلے میں باندھے،

۱۱۱۱ H 2 ۱۱۱

۷۔ دیگر۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المومنین  
والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب  
الحریق فی حرز اللہ و حمايته برحمتك يا الرحم الراحمين

۸۔ برائے مسان یعنی بچے کا سوکھا:

یہ نام لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں۔

لولین، خلص، دوس، ملطوس، سیوس، سلماں، طوح، طوسد،  
اصرع، رب، قروح، عقیود، و سلماں۔

۹۔ دیگر: سرسوں کے تیل پر سورہ یٰسین اس طرح پڑھیں کہ ہر مبین پر دم  
کریں۔ بچے کے سر سے لے کر پاؤں تک ماش کریں اس کے بعد تولیے سے صاف کر دیں  
ہر روز چالیس دن کریں۔

۱۰۔ جائز مطلب پورا ہونے کے لئے تیر بہدف ہے۔

ہر جمعہ کو بعد نماز عصر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر اول و آخر درود شریف  
تین تین بار اس کے بعد یا اللہ یا رحمن یا رحیم مغرب تک پڑھتا رہے جب مغرب کی اذان  
ہو تو پڑھنا چھوڑ دے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مطلب کی دعا مانگے۔ پڑھتے وقت درمیان میں  
کسی سے گفتگو نہ کرے اس طرح چار جمعہ کرے انشاء اللہ کامیابی قدم چومے گی۔ نمازی  
اور پرہیزگار ہونا شرط ہے۔

۱۱۔ جو بچہ بہت روتا ہو۔ اس کے گلے میں لکھ کر ڈالیں۔

یا شیخ مشیخنا فاشلا مون نیز جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے گا بفضل تعالیٰ دشمن کے  
خلاف جنگ میں فتحیاب ہوگا۔

# مقالاتِ زواریہ

ترتیب: سید فضل الرحمن صفحات: ۵۶۸

❁ فقیہ العصر حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ۱۳۹  
نثری تقاریر اور علمی مقالات کا ضخیم مجموعہ۔

❁ طلباء، علماء، مقررین اور واعظین کے لئے ایک بیش بہا تحفہ اور عوام و خواص  
کے لئے یکساں مفید۔

❁ تمام تقاریر اور مضامین کی زبان نہایت سادہ، اندازِ بیاں عام فہم اور قرآنی  
آیات و احادیث کی دلنشین تشریح ہے۔

❁ تمام قرآنی آیات کی اصل عربی عبارت اور اس کا مکمل حوالہ دیا گیا ہے۔  
بعض ایسے جدید مسائل پر محققانہ بحث کی گئی ہے جو اہل علم کے ہاں اختلافی  
رہے ہیں۔

❁ روز مرہ پیش آنے والے مسائل و مشکلات پر تبصرہ اور سماجی و معاشرتی  
برائیوں کے انسداد و سدباب کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں تجاویز پیش  
کی گئی ہیں۔

اس مجموعہ کو درج ذیل سات ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے

(۱) قرآنی تعلیمات، (۲) ایمان و دعوتِ اسلام، (۳) احکامِ دین،

(۴) تجارت و معیشت، (۵) اخلاق و حقوق، (۶) تصوف و سلوک،

(۷) سیرت و سوانح

❁ خوبصورت اور دلکش رنگین سرورق، اعلیٰ کمپیوٹر کمپوزنگ، نہایت نفیس

آفسٹ طباعت اور مضبوط جلد بندی کی اضافی خوبیوں کے ساتھ۔ اہل علم کے

لئے ایک گرانقدر تحفہ۔

ذَوَا اَیْمَانٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

الفضل - ۱ - ۳ / ۷، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی نمبر ۱۸،

پوسٹ کوڈ ۷۶۰۰۷، فون: ۷۶۸۳۷۹۰



قرآن کریم کی، مختصر، جامع، آسان، عام فہم اور مستند تفسیر

## احسن البیان فی تفسیر القرآن

ترتیب: سید فضل الرحمن

حصہ اول: سورہ فاتحہ و بقرہ، حصہ دوم: سورہ آل عمران و نساء، حصہ سوم: سورہ مائدہ تا اعراف

صفحات: ۴۶۳

صفحات: ۴۰۸

صفحات: ۴۴۸

حصہ پنجم زیر اشاعت

صفحات تقریباً ۴۶۰

حصہ چہارم: سورہ انفال تا عدد

صفحات ۴۶۴

### اہل علم کی آراء

”حقیقت یہ ہے کہ ایسی تفسیر نہ صرف عوام کے لئے بلکہ خواص کیلئے بھی مفید ہے اور قابل صد ستائش ہے، تفسیر قرآن سے متعلق یہ ”احسن البیان“ یقیناً اسم با کسی ہے۔“

حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں مدظلہ، حیدرآباد،

”یہ تفسیر صاحبزادہ حافظ فضل الرحمن زید مجدہم (فرزند حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب مرحوم و مغفور) نے بہت عرق ریزی سے لکھی ہے۔“ مفتی محمد ضیاء الحق دہلوی مدظلہ،

### چند خصوصیات

● کتاب کے شروع میں سات ابواب پر مشتمل قرآنی علوم کا مفصل تعارف ہے۔ قرآن اور وحی، فضائل قرآن، آداب تلاوت، نزول قرآن، حفاظت قرآن، اسباب نزول اور تفسیر قرآن کے ماخذ وغیرہ امور پر نہایت واضح اور محققانہ انداز میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔

● ہر سورت کی ابتداء میں اس کی وجہ تسمیہ، مختصر تعارف اور اس کے مضامین کا آیت وار خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

● تقریباً ہر آیت پر اس کے مضمون کی مناسبت سے مختصر عنوان قائم کیا گیا ہے۔

● عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے الفاظ کی لغوی اور اصطلاحی تشریح کی گئی ہے۔

● ترجمہ و تفسیر نہایت سلیس، عام فہم اور با محاورہ ہے۔

● تفسیر و تشریح کا ہر علماء کرام کی تفاسیر سے اخذ کی گئی ہے اور جو مضمون یا عبارت جس تفسیر سے لی گئی ہے اس کا مکمل حوالہ دیا گیا ہے۔

● بہترین کاغذ، دیدہ زیب رنگین سرورق، عمدہ کمپیوٹر زد کتابت، اعلیٰ آفسٹ طباعت، مضبوط پائیدار جلد بندی جیسی اضافی خوبیوں کے ساتھ۔

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز



سیرت طیبہ پر مقبول اور جامع ترین کتاب

صلی اللہ  
علیہ وسلم

# ہادی اعظم

از سید فضل الرحمن، نیا ایڈیشن (حصہ اول) صفحات ۷۵۰ سے زائد

نظر ثانی کے بعد ضخامت زیادہ ہونے کی وجہ سے کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ترتیب جدید، تصحیح، اضافوں اور مکمل حوالہ جات کے ساتھ، تقریباً ۱۵۰ مستند کتب حدیث، سیرت، تفسیر اور تاریخ وغیرہ سے مرتب شدہ، اہل علم کے لئے بیش بہا تحفہ، ہر علمی گھرانے اور لائبریری کی ناگزیر ضرورت، اردو کی کتب سیرت میں ایک قیمتی اور نادر اضافہ،

## کتاب کے بارے میں اہل علم کی آراء

”ماشاء اللہ سخت محنت اور مسلسل کاوش سے مرتب ہوئی ہے اور بعض ایسی تفصیلات ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ہیں“ حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں مدظلہ، حیدرآباد،  
محترم حافظ صاحب نے کتاب میں مستند حالات و واقعات جمع کئے ہیں اور کتاب عوام و خواص کے پڑھنے کی ہے“ مفتی محمد ضیاء الحق دہلوی،  
”مؤلف نے نہ اتنا اختصار برتا ہے کہ سیرت کا کوئی پہلو بالکل ہی نشنہ رہ جائے اور نہ اتنی تفصیل سے کام لیا ہے کہ قاری اکتا جائے، یہ ایک متوسط حجم کی کتاب ہے اور خوب بلکہ بہت خوب ہے“ ڈاکٹر مفتی محمد مظہر بقا، مکہ مکرمہ،

## اہم عنوانات

پوری کتاب کو سات ابواب اور دو جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حصہ اول میں پہلے دو باب شامل ہیں، جن کے اہم عنوانات یہ ہیں۔  
باب اول حیات طیبہ: ۱- بعثت کے وقت دنیا کی حالت، ۲- ولادت سے پہلے کے واقعات، ۳- نسب مطہر، ۴- اجداد کا تعارف، ۵- کئی زندگی، ۶- ہجرت مدینہ، ۷- مدنی زندگی، ۸- ازواج و اولاد، شامل نبوی ﷺ،  
باب دوم تعلیمات نبوی: ۱- اسوۂ حسنہ، ۲- معمولات نبوی ﷺ، ۳- عادات و اخلاق، ۴- فرمودات،  
عنقریب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر ہدیہ قارئین ہو رہی ہے۔

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز



## زوار اکیڈمی پبلی کیشنز کی اہم مطبوعات

- ☆ احسن البیان فی تفسیر القرآن: سید فضل الرحمن
- ☆ قرآن حکیم کی مختصر، جامع، آسان، عام فہم اور مستند ترین تفسیر (مکمل سیٹ) قیمت -/1750 روپے
- ☆ تاریخ خط و خطاطین: پروفیسر سید محمد سلیم صفحات ۳۶۳ قیمت -/600 روپے
- ☆ اردو میں پہلی منفرد تحقیقی کتاب، خطاطی کے بہترین نمونوں کے ساتھ مکمل کتاب آرٹ پیپر پہ
- ☆ صراط مستقیم: حضرت مولانا مفتی غلام قادر رحمہ اللہ صفحات ۲۶۳ قیمت -/160 روپے
- ☆ ۲۷ دینی و علمی مقالات کا مجموعہ
- ☆ تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل: سید عزیز الرحمن
- ☆ سیرت ایوارڈ یافتہ مقالات کا مجموعہ صفحات ۳۸۳ قیمت -/250 روپے
- ☆ فرہنگ سیرت: سید فضل الرحمن صفحات ۳۲۸ قیمت -/150 روپے
- ☆ اپنے موضوع پر منفرد اور پہلی کتاب، مقامات سیرت کے ۳۰ نقشوں کے ساتھ
- ☆ مقالات زواریہ: ترتیب سید فضل الرحمن صفحات ۵۶۸ قیمت -/250 روپے
- ☆ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ کی ریڈیو تقاریر اور علمی مقالات کا قیمتی مجموعہ
- ☆ اذکار سیرت: پروفیسر سید محمد سلیم صفحات ۲۴۰ قیمت -/150 روپے
- ☆ پیغام سیرت: سید فضل الرحمن صفحات ۲۸۰ قیمت -/220 روپے
- ☆ درس سیرت: سید عزیز الرحمن صفحات ۲۷۲ قیمت -/150 روپے
- ☆ حیات بقا اور کچھ یادیں: مفتی محمد مظہر بقا صفحات ۴۰۸ قیمت -/250 روپے

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

۱-۷۳، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ ۷۳۶۰۰ فون: ۳۶۶۸۳۷۹۰

info@rahel.org

www.rahel.org

